



نام کتاب: اہل بیت کے شیعہ

مؤلف: آیت اللہ محمد مهدی آصفی

مترجم: ثنا احمد زین پوری

ای بک: مولانا صادق عباس فاضل قم

تبلیغاتی معاونت: سید رضا جعفری

[aalulbayt@gmail.com](mailto:aalulbayt@gmail.com)

پیشگوئی: معاونت فرهنگی، ادارہ ترجمہ

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت (ع)

مطبع: اعتماد

---

## فہرست مطالب

### حرف اول

پیش گفتار اہل بیت کے شیعہ کون ہیں

۱۔ اہل بیت کی سیاسی امامت

۲۔ اہل بیت فقہی و ثقافتی مر جعیت

اہل بیت سے نسبت اور محبت کی قدر و قیمت

محبت اہل بیت کی اہمیت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نظر میں

علی کے شیعہ ہی کامیاب ہیں

علی اور ان کے شیعہ بہترین خلاقت ہیں

اسلام میں محبت اہل بیت کا مقام

رفضی کون ہیں

ہر محبت کا دعویدار شیعہ نہیں ہے

مومنین اہل جنت کے لئے ایسے ہی درخشان ہیں جیسے آسمان پر ستارے

وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ۔

شیعہ اہل بیت کی نظر میں۔

اہل بیت اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں:

اہل بیت کے شیعوں پر اور شیعوں کے اہل بیت پر حقوق

اہل بیت سے محبت اور نسبت کے شرائط

اہل بیت خدا سے شفاقت کریں گے اور اس سے بے نیاز نہیں ہیں

تقویٰ اور روع

تعبد و بندگی

رات کے عابد دن کے شیر

شب و روز میں آکیاون رکعت نماز پڑھتے ہیں

آپس میں ملاقات و محبت

ایک دوسرے پر مومنین کے حقوق

مومن کی حرمت اور اس کی محبت و خیرخواہی

مومن، مومن کے لئے ایک بدن کی مانند ہے

عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک

اعتدال و میان درودی اور موازنہ

حافظتی اور سیاسی ضوابط

اہل بیت کی محبت و عقیدت سے متعلق کچھ باقیں

مفہوم ولائی

صدیق

عضوی نسبت

برائت و بیزاری

ولاء اور توحید کار بط

سلام و نصیحت

نصیحت

نمودنہ عمل اور قیادت

رنج و مسرت

ہمراہی اور اتباع

ثقافتی اتباع

طاعت و تسلیم

توحید میں طاعت

تسلیم

مد و اور انتقام

محبت و مودت

اثبات و ابطال

میراث و انتظار

### زیارت

زیارت اس استحکام کا اہم عامل ہے  
 مکتب اہل بیت سے منسوب ہونے کے طریقے  
 دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے ہمراہ  
 خدا ان پر کرم کرتا ہے  
 وہ ہم سے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے تمسک رکھتے ہیں  
 جو چیز خدا انہیں آخرت میں عطا کرے گا  
 ہمارے ساتھ اور ہم میں سے  
 فلاح و کامیابی  
 تو الٰہی و تبری کے سبب شہیدوں میں شرکت  
 استدرآک والخاق  
 اہل بیت کون ہیں  
 رسول اکرم کے بارہ امام ہوں گے  
 آیت تطہیر

## حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و طرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ نئھے نئھے پوڈے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقاء بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالم تاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمیت دینے کا حوصلہ، ولوہ اور شعور نہ رکھتے تو مذاہب عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگر چہ رسول اسلام کی یہ گرانہما میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیروں نے

خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے متنگانائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پرواکٹے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشوروں نے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجودوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنارشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(علمی اہل بیت کوسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و تجھیکی کو فروع دینا وقت کی ایک اہم

ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیا یے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہر انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوتؓ و رسالت کی جاوہاں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھنگی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعتوں کے ذریعہ امام عصر(ع) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفوں کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علامہ آیۃ اللہ محمد مہدی آصفی کی گرانقدر کتاب اہل بیت کے شیعہ کو فاضل جلیل مولانا شاہ احمد زین پوری نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہادرضا یے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

وَالسَّلَامُ مَعَ الْأَكْرَامِ

مدیر امور ثقافت،

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

---

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى) سورہ شورہ ۲۳:  
اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تم  
میرے قرابداروں سے محبت کرو۔

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) سورہ مائدہ ۵۵:  
تمہارا ولی خدا، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ  
دیتے ہیں۔

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ لَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَنَهْمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) سورہ مائدہ ۶۴:  
اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا  
تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

## پیش گفتار

### اہل بیت کے شیعہ کون ہیں

تشیع کے معنی نسبت، مشایعت، متابعت اور ولاء کے ہیں، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے:

(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِبَرَاهِيمَ ذَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (۱)

ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہیں جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلبِ سلیم کے ساتھ آئے۔

یعنی نوح کے پیروں میں سے ابراہیم بھی تھے جو خدا کی وحدانیت اور عدل کی طرف دعوت دیتے تھے اور نوح ہی کے نجی پر تھے۔

لیکن یہ لفظ علی بن ابی طالب اور آپ کے بعد آپ کی ذریت سے ہونے والے انہم سے محبت و نسبت رکھنے والوں کے لئے استعمال ہونے لگا ہے۔ یہی رسول کے اہل بیت ہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر اور آیت مودت نازل ہوئی ہے۔

تاریخ اسلام میں یہ لفظ اہل بیت رسول سے محبت و نسبت اور ان کے مکتب سے تعلق رکھنے والوں کے لئے شہرت پا گیا ہے۔ اس محبت و نسبت اور اتباع کے دو معنی ہیں: سیاسی اتباع و نسبت (سیاسی امامت) اور ثقافتی و معارفی اتباع (فقہی و ثقافتی مرجمعیت) یہ وہ چیز ہے جس

کے ذریعہ شیعیان اہل بیت پہچانے جاتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

اب آپ کے سامنے مذکورہ دونوں شقوق کی وضاحت کی جاتی ہے:

### ۱۔ اہل بیت کی سیاسی امامت

رسول نے جبتوں الوداع سے واپس لوٹتے ہوئے ، غدیر خم میں (قاولد کے) مختلف راستوں میں بٹنے سے پہلے یہ حکم دیا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا یا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آپ سے ملحتی ہو جائیں یہاں تک کہ آپؐ کے پاس لوگوں کا جم غیر جمع ہو گیا۔ اس وقت شدید گرمی تھی اس سے پہلے وہ اتنی شدید گرمی سے دوچار نہیں ہوئے تھے۔

(۱) سورہ صافات ۸۳

رسول کے حکم سے شامیانے لگائے گئے ان کے نیچے جھاؤ دلگانی گئی، پانی چھڑکا گیا آپ کے لئے کپڑے سے سایہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھی پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا وقت قریب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب کا ہاتھ کپڑا (اور اتنا بلند کیا کہ) آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو گئی اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! کیا میں تم سب سے اولیٰ نہیں ہوں۔ سب نے کہا: ہاں! پھر فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اے اللہ جوان کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جوان کو

شمن سمجھے تو اس کو شمن سمجھ، جوان کی نصرت کرے تو اس کی مدد فرم اور جوان کو چھوڑ دے تو اس کو رسافرما۔

خدا نے اپنے رسول کو اس سے پہلے اس پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ ارشاد ہے:  
 (یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ لَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  
 رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ) (۱)

اس آیت میں خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اپنے بعد ہونے والے وصی اور ولی کا تعارف کرادیں۔ یہ بات آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے، ہمیں قرآن مجید میں کوئی دوسری آیت ایسی نہیں ملتی جس میں رسول کو اس انداز میں مخاطب کیا گیا ہو

(وَنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)

اس کے بعد رسول کو اطہیناں دلانے کے انداز میں مخاطب کیا ہے کیونکہ اس وقت رسول خود کو لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے لہذا خدا نے فرمایا:

.....

(۱) سورہ مائدہ ۶۷۵ -

(وَاللَّهُ يَعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ)

جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو ولایت اور وصایت کے بارے میں بتا دیا اور تبلیغ دین کی تکمیل کر دی تو اس سلسلہ میں خدا نے فرمایا:

**(الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ  
السَّلَامَ دِينًا)**

عہد صحابہ سے آج تک تاریخ کے اس عظیم واقعہ کی روایتیں ہر طبقہ اور سند کے اعتبار سے متواتر ہیں چنانچہ طبقہ اولیٰ میں ایک سو دس صحابہ سے زیادہ نے اس کو بیان کیا ہے اور دوسرے طبقہ میں ۸۴ تابعین نے اس کی روایت کی ہے، اس کے بعد راویوں کے طبقات میں وسعت ہوتی رہی شیخ عبدالحسین امینی نے اپنی کتاب ﴿الغدیر﴾ کی پہلی جلد میں اس حدیث کے راویوں کی تعداد بیان کی ہے، ہمارے ساتھی محقق سید عبدالعزیز طباطبائی نے اس کی متدرک لکھی ہے، جس میں موصوف نے کچھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور منابع و مأخذ کا اضافہ کیا ہے۔

اس حدیث کے طرق اتنے صحیح ہیں کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حدیث کو حفاظ، محدثین، مفسرین، موصلین اور بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان سب کا بیان کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے، ترمذی اپنی صحیح میں، ابن ماجہ نے سنن میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، نسائی نے خصائص میں، حاکم نے متدرک میں، متفقہ ہندی نے کنز العمال میں، مناوی نے فیض القدر میں، پیغمبær نے مجمع الزوائد میں، محب الطبری نے ریاض النظرۃ میں، خطیب نے تاریخ بغداد میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابن اثیر جزیری نے اسد الغابۃ میں، طحاوی نے مشکل الآثار میں، ابو عیم نے حلیۃ الاولیاء میں، ابن حجر نے صواعق محقرۃ میں، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور بہت سے لوگوں نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے کہ اس

مقدمہ میں ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔

ابن حجر نے تہذیب العہذیب میں بعض ان صحابہ کے اسماء تحریر کئے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے اور لکھا ہے کہ ابن حجر طبری نے اپنی تالیف میں حدیث ولایت کو نقل کیا ہے، اس میں اس حدیث کو نقل کرنے والوں کی تعداد کئی گناز یاد ہے اور موصوف نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں : ابوالعباس بن عقدہ نے اس حدیث کے طرق کو جمع کیا ہے اور ستر یا ستر سے زیادہ صحابہ سے اس کی روایت کی ہے۔ (۱)

فتی الباری میں لکھا ہے : لیکن، حدیث

### من کنت مولاہ فعل مولاہ

کوترمذی اور نسانی نے نقل کیا ہے اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ ان طرق کو ابن عقدہ نے ایک الگ کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس حدیث کی زیادہ تر سند میں صحیح اور حسن ہیں۔ (۲) لہذا اس کے متن و سند میں کوئی شک نہیں کرے گا اور اس کے حوقرائیں ہیں وہ اتنے روش ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا شدید گرمی میں صحابہ کے جم غفاری کو، ان کے مختلف راستوں میں تقسیم ہونے سے قبل، جمع کرنا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کرنا اور جو آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلانا، امت کی سرنوشت میں اہمیت کے حامل ایک امر کے لئے تھا۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی کا ہاتھ بلند کرنے اور "من کنت مولاہ فعلی مولاہ"

کہنے سے پہلے صحابہ سے معلوم کیا: کیا میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا: بیشک، آپ اولیٰ ہیں اور یہ تمام مسلمانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حاکمیت و ولایت کے معنی ہیں۔ لہذا فرمایا:

"من کنت مولاہ فهذا علّ مولاہ"

.....

(۱) تہذیب التہذیب: ج ۷ ص ۳۳۹ حالات علی بن ابی طالب

(۲) فتح الباری: ج ۸ ص ۷۶ ب ۹ مناقب علی بن ابی طالب

پھر بہت سے بزرگ صحابہ علی کو ولایت کی مبارک باد دینے کے لئے خدمت علی میں حاضر ہوئے، ان میں ابو بکر و عمر بھی شامل تھے۔

اس کے علاوہ اس کی دلالت، شہرت، گواہی اور تصریح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد ہونے والے خلیفہ اور امام کے لئے کافی ہے۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقصد تھا کہ علی کو اپنے بعد مسلمانوں کا امام بنادیں مگر کیا کیا جائے کہ سیاسی امور آڑے آگئے اور لوگ اس حدیث کی دلالت میں شک کرنے لگے جبکہ اس کی سند میں شک کرنا ان کے لئے آسان نہیں تھا۔ شیعیان اہل بیت اس اور دوسری واضح صحیح حدیثوں کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد علی کو اور ان کے بعد ان کی ذریت سے ہونے والے انہے کو سیاسی امام تسلیم کرتے ہیں۔

## ۲۔ اہل بیت، فقہی و ثقافتی مرجعیت

یہ نکتہ ان دو روشن شقوقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعہ اہل بیت کے شیعہ دوسرے

مسلمانوں سے جدا ہوتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اہل بیت کو اپنی حیات ہی میں مسلمانوں کا مرجع بنادیا تھا کہ وہ حلال و حرام میں ان سے رجوع کریں گے وہ انہیں سید ہر راستے کی ہدایت کریں گے اور ان کو گمراہی سے بچائیں گے: اور اہل بیت کو قرآن سے مقرر و کیا تھا یہ بات حدیث ثقلین سے ثابت ہے جو کہ محدثین کے درمیان مشہور ہے اور فرقین کے نزدیک صحیح ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس کی روایت متواتر ہے اور یہ تو اتر ہے اور شہرت اس لئے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد اس کے پھیلانے کا اہتمام کیا تھا۔

جن لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے ان میں سے مسلم بن جاجح بھی ہے انہوں نے صحیح مسلم کے باب فضائل علی بن ابی طالب میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا ایک تالاب کے کنارے، جس کو خم کہتے ہیں اور مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہے، ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، پہلے خدا کی حمد و شناع کی، پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں بھی بشر ہوں، قریب ہے کہ خدا کا فرستادہ آئے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں ان میں سے ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت و نور ہے، الہذا کتاب خدا کو لے لو اور اس سے وابستہ ہو جاؤ، کتاب خدا کے بارے میں ترغیب کی۔ پھر فرمایا: اور میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔  
تین بار یہی جملہ دھرا یا۔ (۱)

ترمذی نے اپنی صحیح میں زید بن ارقم سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ایک دوسری سے عظیم ہے ایک کتابِ خدا ہے جو رسی کی مانند آسمان سے زمین تک ہے، دوسری میری عترت ہے وہی میرے اہل بیت ہیں یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے، دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ (۲)

(۱) صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی بن ابی طالب

(۲) سنن ترمذی: ج ۲ ص ۳۰۸ کتاب المناقب اہل نبی ح ۳۷۸۸

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ سے بھی اس کی روایت کی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے عرف کے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا وہ ناقہ قصوی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، میں نے سنا کہ فرماتے ہیں: اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس سے وابستہ ہو گئے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہے کتابِ خدا اور میرے اہل بیت عترت۔ (۱) حاکم نے متدرک الحیین میں اس حدیث کو اپنی سند سے زید بن ارقم سے متعدد طریقوں سی نقل کیا ہے۔ (۲)

احمد بن حنبل نے مند میں اس حدیث کو کئی طریقوں سے نقل کیا ہے: ابوسعید خدری سے (۳) زید بن ارقم سے (۴) اور زید بن ثابت سے اس کو دو طریقوں سے نقل کیا ہے۔ (۵) اس

حدیث کے بہت سے طرق ہیں، اس کی سند یہ صحیح ہیں لہذا یہ حدیث مستفیض ہے۔ اور اس کی صحت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو مسلم و ترمذی نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔

علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے (عقبات الانوار) میں اس حدیث کے طرق کو تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے وہ ایک بڑی کتاب ہے اس کی دوسری جلد میں حدیث کی دلالت سے بحث کی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ان دونوں جلدوں کو دوسری جلدوں میں طبع کیا گیا ہے۔ خدا سید میر حامد حسین پر حم کرے اور ان کی اس علمی کوشش کو قبول فرمائے۔ اس حدیث میں:

۱۔ اہل بیت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔

۲۔ دونوں کو خطاؤ گمراہی سے محفوظ قرار دیا ہے۔

۳۔ اپنی امت کو دونوں سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے۔

۴۔ امت کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں۔ قرآن و اہل بیت۔ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس وارد ہوں گے پس یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد ہر چیز میں امت کے لئے مرجع ہیں، اس دین کے حدود

، احکام اور اصول و فروع

کی معرفت کے لئے انہیں سے رجوع کیا جائے گا۔

.....

(۱) سنن ترمذی: ج ۲ ص ۰۸

(۲) مسند رک اصحابیین: ج ۳ ص ۱۰۹

(۳) مند احمد ج ۳ ص ۱۷

(۴) مند احمد ج ۴ ص ۳۷۱

(۵) مند احمد ج ۵ ص ۱۸۱

صوات عن میں پیشی لکھتے ہیں: حنفیوں میں امت کو اہل بیت، سے تمکر نے کی ترغیب کی گئی ہے ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اہل بیت، سب سے لاک و شاکستہ افراد، کا سلسلہ قیامت تک چاری رہے گا تاکہ امت ان سے وابستہ ہو سکے اسی طرح قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، یہ میں کے لئے باعث امان ہیں جیسا کہ اس حدیث: فی کل خلف من امت عدوں من اہل بیتی (۱) میری امت کی ہر نسل میں میرے اہل بیت سے کچھ عادل ہوں گے۔

(۲)

یہ تھا اس اہم نقطہ کا خلاصہ جس سے شیعہ ممتاز ہوتے ہیں۔

اس بحث سے جو ہمارا مقصد ہے اس تک پہنچنے کے لئے یہی کافی ہے کیونکہ یہ کتاب شیعیان اہل بیت کے عقائد کو بیان کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اسی لئے ہم نے محبت اہل بیت سے متعلق درج ذیل چار نکات سے بحث کرنے کے لئے مذکورہ دو کو تمہید کے طور پر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ نکات یہ ہیں:

۱۔ اہل بیت سے محبت و نسبت کی قدر و قیمت

۲۔ مکتب اہل بیت سے محبت کرنے اور اس سے منسوب ہونے کے عام شرائط

۳۔ محبت کے اجزاء اور اس کے عناصر

۴۔ مکتب اہل بیت سے نسبت و محبت کے فوائد  
اب ہم انشاء اللہ یکے بعد دیگرے ان نکات سے بحث کریں گے۔

.....

- (۱) الصواعق المحرقة: ۱۵۱ طبع مصر ۱۹۶۵ء
- (۲) جو شخص اس مقدمہ کو پڑھتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں اور کیا خصوصیات ہیں، اس سوال کا جواب دینے کیلئے ہم کتاب کے آخر تک گفتگو جاری رکھیں گے تاکہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔

اہل بیت سے نسبت اور محبت کی قدر و قیمت

محبت اہل بیت کی اہمیت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصفی نظر

میں

ہم یہاں اہل بیت کی محبت کی اہمیت کے بارے میں کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں:

علیؑ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں

سیوطی نے درمنثور میں اس آیت:

(أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسَنُونَ)

کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ ابن عساکر نے جابر بن عبد اللہ النصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ علی تشریف لائے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن یہ اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

(أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسَنُونَ)

چنانچہ جب علیؑ آتے تھے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصفی تھے: خیر البریۃ آرہے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف المناوی نے اپنی کتاب «کنز الحقائق» کے صفحہ ۸۲ پر اس طرح روایت کی ہے:

"شیعہ علیٰ ہم الفائزون"

علیٰ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ پھر لکھتے ہیں اس حدیث

.....

(۱) سورہ بینۃ: ۷

کودیلی نے بھی نقل کیا ہے۔ یعنی نے مجع الزوائد کی کتاب المناقب کے مناقب علی بن ابی طالب (۱) میں۔ علی سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: اے علی تم اور تمہارے شیعہ خدا کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچو گے کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے خوش ہو گا اور تمہارا دشمن اس حال میں حاضر ہو گا کہ خدا اس پر غضبناک ہو گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔

اس حدیث کی طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے۔

ابن حجر نے صواعق کے ص ۹۶ پر روایت کی ہے اور لکھا ہے: دیلی نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: اے علی: مبارک ہو کہ خدا نے تمہیں، تمہاری ذریت، تمہارے بیٹوں، اہل، تمہارے شیعوں اور تمہارے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ (۲) ایوب بجستانی سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ام سلمہ نے کہا: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا سے سنا کہ فرماتے ہیں: قیامت کے روز علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ (۳)

علی اور ان کے شیعہ بہترین خلاق ہیں

جریر طبری نے اپنی تفسیر میں خداوند عالم کے اس قول (أَوْلَئِكَ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ) کی تفسیر کے سلسلہ میں اپنی سند سے ابو جارود سے انہوں نے محمد بن علی سے روایت کی ہے کہ

.....

(۱) مجمع الزوائد: ج ۹ ص ۱۳۱

(۲) فضائل النجس من الصحاح السه: ج ۲ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸

(۳) بشارت مصطفیٰ: ص ۱۹۷

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ (۱)  
اس کو سیوطی نے درمنثور میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے: اس حدیث کو ابن عدی اور ابن عسا کرنے علی سے مرفوع طریقہ سے نقل کیا ہے کہ: علی خیر البریّۃ ہیں۔

نیز تحریر کیا ہے: ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب یہ آیت (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ الْبَرِّيَّةِ) نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی سے فرمایا: روز قیامت تم اور تمہارے شیعہ خدا سے خوش اور وہ تم سے راضی ہوگا۔ (۲)

نیز لکھا ہے: ابن مردویہ نے علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا: مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: کیا تم نے خدا کا قول (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ الْبَرِّيَّةِ) نہیں سنा ہے؟ تمہاری اور تمہارے شیعوں کی، میری اور تمہاری وعدہ گاہ حوض،

کوثر ہے جب امتیں حساب کے لئے آئیں گی تو تمہارے شیعوں کو عزت کے ساتھ بلا یا جائیگا اور بٹھایا جائیگا۔

ابن حجر نے صواعق میں لکھا ہے:  
گیارہویں آیت (أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ كُلِّ السَّمَاوَاتِ مَا يَرِيدُ النَّاسُ وَمَا يُنَزَّلُ إِلَّا كَمْ خَيْرٌ لِلنَّاسِ) جمال الدین زرندی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت

.....

(۱) تفسیر طبری: ج ۳ ص ۱۷۱ سورہ بینہ

(۲) درمنثور: سیوطی تفسیر بینہ

نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی سے فرمایا: یہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں کہ قیامت کے روز تم خدا سے راضی اور وہ تم سے راضی ہوگا۔ اور تمہارا دشمن اس حال میں آیا گا کہ وہ غصہ میں ہو گا اور اس کے ہاتھ گردن کے طوق میں پڑے ہوں گے۔ (۱)  
اس روایت کو شبیخی نے نور الابصار میں نقل کیا ہے۔ (۲)

### اسلام میں محبت اہل بیت کا مقام

محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد سے ابو حمزہ ثمہی سے اور انہوں نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، پر کھی گئی ہے اور جس طرح ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس طرح کسی بھی چیز کی طرف نہیں

بلا یا گیا ہے۔ (۳)

محمد بن یعقوب کلبینی نے اپنی اسناد سے عجلان ابو صالح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ امام صادق کی خدمت میں عرض کیا: مجھے ایمان کی حدود و تعریف سے آگاہ کیجئے فرمایا: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں، جو چیز وہ خدا کی طرف سے لائے ہیں وہ بحق ہے، پانچ وقت کی نماز، ماہ رمضان کا روزہ، خانہ کعبہ کا حج، ہمارے ولی کی ولایت اور ہمارے شمن سے عداوت اور سچوں میں شامل ہونا۔ (۴)

کلبینی نے اپنی اسناد سے زرارہ سے انہوں نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت (۵)۔

.....

### (۱) الصواعق المحرقة: ۹۶

(۲) نور الابصار: ج ۷ ص ۱۱۰ ہم نے مذکورہ روایات کو فیروز آبادی کی کتاب فضائل الخمسة من صحاب السنت طبع مجمع جهانی اہل بیت: ج ۱ ص ۳۲۸ و ۳۲۹ سے نقل کیا ہے

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۳۲۹ اصول کافی: ج ۲ ص ۱۸

(۴) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۳۲۹ اصول کافی: ج ۲ ص ۱۸

(۵) بخار الانوار: ج ۲ ص ۱۳۳۲ اصول کافی: ج ۲ ص ۲۱

## رافضی کوں ہیں

روایت ہے کہ ایک روز عمار کسی گواہی کے سلسلہ میں کوفہ کے قاضی ابن ابی یلیٰ کے پاس گئے۔ قاضی نے ان سے کہا: اے عمار تم اٹھو! حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہیں پہچان گئے ہیں تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائیگی کیونکہ تم رافضی ہو، (یہ سن کر) عمار کھڑے ہو گئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی اور ان کا جوڑ جوڑ کا نپنے لگا۔

ابن ابی یلیٰ نے ان سے کہا: آپ تو عالم و محدث ہیں اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کو رافضی کہا جائے تو رفض کو چھوڑ دیں، پھر تم ہمارے بھائی ہو۔ عمار نے اس سے کہا: جو تمہارا مسلک ہے وہی میرا مسلک ہے، لیکن مجھے اپنے اور تمہارے اوپر رونا آرہا ہے، اپنے اوپر تو میں اس لئے رو رہا ہوں کہ جس عظیم رتبہ کی طرف تو نے مجھے نسبت دی ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم نے یہ گمان کیا ہے کہ میں رافضی ہوں وائے ہوتم پر، (امام جعفر صادق نے فرمایا ہے: سب سے پہلے ان جادوگروں کو رافضی کہا گیا تھا جو عصا میں حضرت موسیٰ کام مجرہ دیکھ کر ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی اور فرعون کے حکم کو ٹھکرایا اور اپنے فائدہ کی ہر چیز کو قبول کر لیا تو فرعون نے انہیں رافضی کا نام دیا کیونکہ انہوں نے فرعون کے دین کو ٹھکرایا تھا تو اس دیا تھا تو اس لحاظ سے رافضی وہ شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹھکرایے جن کو خدا پسند نہیں کرتا ہے اور جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، تو اس زمانہ میں ایسا کون ہے؟) اور اپنے اوپر اس لئے بھی رو رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے اگر خدا کو میرے دل کی کیفیت کا علم ہو گیا

جبکہ میں نے معزز لقب پایا ہے تو میرا پروردگار مجھے سرزنش کرے گا اور فرمائے گا: اے عمار کیا تم باطل چیزوں کو ٹھکرائے تھے اور طاعات پر عمل کرتے تھے جیسا کہ تمہیں لقب ملا ہے؟ اگر اس مدت میں میں سہل انگاری سے کام لوں گا تو اس سے میرے درجات کم ہو جائیں گے، اور میرے اوپر شدید عقاب ہو گا مگر یہ کہ ہمارے مولا و آقا اپنی شفاعت کے ذریعہ ہماری مدد کریں۔

اور تمہارے اوپر اس لئے رور ہا ہوں کہ تم نے میرا ایسا نام رکھا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر خدا کا عذاب نہ آجائے کہ تم نے شریف ترین نام رکھا ہے اور اس کو پست ترین خیال کیا ہے تمہارا بدن اس بات کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟  
 امام جعفر صادق فرماتے ہیں: اگر عمار کے اوپر آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ گناہ ہوتے تو ان کی اس گفتگو کے سبب ان سب کو محکر دیا جاتا۔ یہ کلمات ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے حسنات میں اضافہ کریں گے، یہاں تک کہ ان کے کلام کا معمولی حصہ بھی اس دنیا سے ہزار گناہ بڑا ہو گا۔ (۱)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۶ و ۱۵۷

## ہر محبت کا دعویدار شیعہ نہیں ہے

امام موسیٰ کاظمؑ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم لوگوں کا گزر بازار میں اس شخص کے پاس سے ہوا جو یہ کہہ رہا تھا میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاص شیعہ ہوں وہ اپنا کپڑا فروخت کرنے کی غرض سے یا آواز دے رہا تھا کہ کون زیادہ مہنگا خریدے گا؟ امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: "ما جهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسه، أتدرون ما مثل هذا؟ هذا"؛ هذا شخص قال أنا مثل سليمان، وأبي ذر، والمقداد، وعمّار، وهو مع ذلك يباخس في بيته ويدلس عيوب المبيع على مشترىه، ويشتري الشيء بشمن، فيزايد الغريب، يطلبه فيوجب له ثم اذا غاب المشترى قال لا اريد له لا بکذا بدون ما كان طلبه منه، أيكون هذا كسليمان وأبي ذر والمقداد وعمّار؟ حاش الله ان يكون هذا كهم، ولكن ما يمنعه من أن يقول نى من محبى محمد و آل محمد و من يوالى أوليائه و يعادى أعدائهم".

کیا تم جانتے ہو کہ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ شخص کہہ رہا تھا میں سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار یا سر کے مثل ہوں اس کے باوجود اپنی چیز کو کم ناپتا ہے اور خریدار سے اپنی اس چیز کا عیب چھپاتا ہے جس کو فروخت کر رہا ہے۔ اور معمولی قیمت میں ایک چیز خریدتا ہے اور اجنبی کو گراں قیمت پر فروخت کرتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے۔

کیا یہ شخص سلمان وابوذر اور مقداد و عمار جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان جیسا نہیں ہو سکتا، وہ کیا چیز ہے جس نے اسے یہ کہنے سے باز رکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآل محمد کے شیعوں میں سے ہوں یا ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے شمنوں کا شمن ہوں۔ (۱)

مومین اہل جنت کے لئے ایسے ہی درخشاں ہیں جیسے آسمان پر  
ستارے

امیر المؤمنین سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: یقیناً جنت والے ہمارے شیعوں کی طرف ایسے ہی دیکھیں گے جیسا کہ انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ (۲)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۱۵۷ و ۶۸ ص

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۸ خصال الصدق: ۱۶۷

امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: آسمان والوں کے لئے مومین کا نور ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے روشن ہیں۔ (۱)

امام موتی کاظم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: امام صادق کے چاہنے والوں کی ایک جماعت چاندنی رات میں آپ کی خدمت میں حاضر تھی ان لوگوں نے کہا: فرزند رسول ﷺ! کتنا اچھا ہوتا کہ یہ آسمان اور یہ ستاروں کا نور ہمیشہ رہتا۔ امام صادق نے فرمایا: یہ نظم و نسق برقرار رکھنے والے چار فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زمین کی طرف

دیکھتے ہیں تو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کوز میں کے گوشہ و کنار میں دیکھتے ہیں جبکہ تمہارا انور آسمانوں میں ہوتا ہے اور ان کے نزدیک یہ نور ستاروں سے زیادہ اچھا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسے تم کہتے ہو: ان مومنوں کا نور رکتنا اچھا ہے۔ (2)

### وَهَاللَّهُ كَعْنُورٍ سَرِّ دِيَكَهْتَهِ بِهِ

ابن الی بن خزان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے ابو الحسن سے سنا کہ فرماتے ہیں: جو ہمارے شیعوں سے عداوت رکھتا ہے درحقیقت وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور جوان سے محبت کرتا ہے درحقیقت وہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں وہ ہماری ہی طیبیت سے پیدا کئے گئے ہیں پس جوان سے محبت کرے گا وہ ہم میں سے ہے اور جوان سے عداوت رکھے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے شیعہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں اور خدا کی رحمت میں کروٹیں لیتے ہیں اور اس کی کرامت سے سرفراز رہتے ہیں اور ہمارے شیعوں میں جس کو بھی کوئی غم ہوتا ہے اس کے غم میں ہم بھی غمگین ہوتے ہیں اور اس کے خوش ہونے سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ (3)

.....

(1) بخار الانوار: ج ۴ ص ۲۴۳ اصول کافی: ج ۲ ص ۱۷ میں منقول

(2) بخار الانوار: ج ۶ ص ۲۴۳ عیون اخبار رضا میں منقول

(3) بخار الانوار: ج ۶ ص ۱۶۷ صفات الشیعہ میں ۱۶۲ میں منقول

## اہل بیت اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں

جس طرح اہل بیت کے شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت بھی اپنے شیعوں سے شدید طور پر محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کی خوشبو اور روحوں سے بھی محبت کرتے ہیں ان کے دیدار و ملاقات کو بھی دوست رکھتے ہیں وہ اسی طرح ان کے مشتاق رہتے ہیں جس طرح دمحوب ایک دوسرے کے مشتاق رہتے ہیں اور یہ فطری بات ہے کیونکہ محبت کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے ایک طرف سچی محبت ہوگی تو دوسری طرف بھی سچی محبت ہوگی۔

احمق بن عمار نے علی بن عبد العزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ سے سنا کہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم مجھے تمہاری خوشبو، تمہاری روحیں، تمہارا دیدار اور تمہاری ملاقات بھی محبوب ہے اور میں دینِ خدا اور دینِ ملائکہ پر ہوں پس اس سلسلہ میں تم ورع کے ذریعہ میری مدد کرو کیونکہ میں مدینہ میں شعیر کی مانند ہوں۔ میں گھومتا ہوں لیکن جب تم میں سے کوئی نظر آ جاتا ہے تو مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ (۱)

جس طرح کالے بالوں میں سفید بال قلیل ہوتے ہیں اسی طرح میں مدینیہ میں تنہا ہوں، میں مدینہ میں گھومتا رہتا ہوں شاید تم میں سے کوئی نظر آ جائے اور میں اس کے پاس آرام کروں۔

.....

(۱) الحasan: ص ۶۸ ج ۲ بخار الانوار: ص ۶۳

عبداللہ بن ولید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ سے سنا کہ فرماتے ہیں

: ہم ایک جماعت ہیں خدا کی قسم میں تمہارے دیدار کو پسند کرتا ہوں اور تمہاری گفتگو کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ (۱)

نصر بن مزاحم نے محمد بن عمران بن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے جعفر بن محمد علیہما السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے والد مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ہمارے کچھ شیعہ بھی موجود تھے آپ ان کے قریب گئے انہیں سلام کیا اور ان سے فرمایا: خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو اور روحوں کو دوست رکھتا ہوں، اور میں دین خدا پر ہوں۔ پس ورع و کوشش کے ذریعہ میری مدد کرو اور تم میں سے جو کسی کو اپنا امام بنائے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے، تم خدا کے سر باز ہو تم خدا کے اعوان ہو، تم خدا کے انصار ہو۔ (۲)

محمد بن عمران نے اپنے والد سے انہوں نے ابو عبد اللہ، سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک روز میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ منبر و قبر - رسول ﷺ - کے درمیان آپ کے اصحاب کی ایک جماعت بیٹھی ہے میرے والد ان کے قریب گئے انہیں سلام کیا اور فرمایا: خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو اور روحوں کو دوست رکھتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں تم ورع و جانفشاری کے ذریعہ میری مدد کرو۔ (۳)

یہ دو کلمات انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں:

۱۔ میں تمہاری خوشبو اور روحوں سے محبت کرتا ہوں۔

۲۔ ورع و کوشش کے ذریعہ تم میری مدد کرو۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۲۹

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۴۳ و ۴۴ بشارت المصطفیٰ ص ۱۶۔

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۶۵ و ص ۱۱۸۔

پہلا جملہ محبت و شوق کے اعلیٰ مراتب کا غماز ہے کہ امام کو اتنا اشتیاق و عشق ہے کہ وہ اپنے شیعوں میں جنت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ محبت کے بارے میں اس سے زیادہ بلغ اور واضح تعبیر استعمال ہوئی ہوگی۔

دوسرا جملہ اس محبت کے ضوابط کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ محبت لوگوں کی ایک دوسرے سے محبت کے فرق سے بدلتی رہتی ہے یہ بھی محبتِ خدا میں سے ہے اور یہ محبت کا بلند ترین درجہ ہے لیکن طاعت و عبودیت اور ورع و تقویٰ میں اس کا پلہ بھاری رہے گا اور ورع و تقوے کے جتنے پلے بھاری ہوں گے اسی تناسب سے محبت میں استحکام و بلندی پیدا ہوگی۔ اسی لئے امام نے اپنے شیعوں سے یہ فرمایا ہے کہ مجھے تم سے جو محبت ہے اس میں ورع، تقویٰ اور خدا کی طاعت و عبودیت کے ذریعہ میری مدد کرو۔

بیشک وہ لوگ امام کے شیعہ تھے اور اہل بیت جانتے ہیں کہ شیعہ ان سے کتنی محبت رکھتے ہیں اہل بیت اس محبت کے عوض ان کو اتنی ہی یا اس سے زیادہ محبت دینا چاہتے ہیں، لہذا اہل بیت نے اپنے شیعوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے نفسوں کو اس محبت کا اہل بنالیں اور یہ اہلیت ورع و تقویٰ اور طاعت و عبودیت سے پیدا ہوگی اور اس وقت اہل بیت کی اپنے شیعوں سے محبت خدا کی محبت ہی کی ایک کڑی ہوگی۔

اس طرح شیعوں سے اہل بیت کی محبت ایسی ہی ہو گی جیسے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بیٹا اپنے اخلاق و عادات اور کردار و آداب میں اس محبت کا اہل ہوا اور وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے باپ کی عزت پر حرف آئے اور اس کے دل سے بیٹے کی محبت نکل جائے اور وہ اسے عاق کر دے۔

جس نے ان کے شیعوں سے عداوت کی اس نے ان سے دشمنی کی اور جس نے ان کے شیعوں سے محبت کی اس نے ان سے محبت کی۔

جس طرح بغض و محبت کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے یعنی ایک طرف کی محبت اسی وقت سچی ہو سکتی ہے جب دوسرا طرف بھی سچی محبت ہوا اسی طرح تو لا اوتبری بھی ہے پس جس طرح ہم اہل بیت کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت بھی اس شخص کو دشمن سمجھتے ہیں جو ان کے شیعوں سے عداوت رکھتا ہے اور اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔

ابن ابی خیر ان سے روایت ہے کہ انہوں کہا، میں نے ابو الحسن سے سنا ہے:

جس نے ہمارے شیعوں سے دشمنی کی درحقیقت اس نے ہم سے دشمنی کی اور جس نے ان سے محبت کی حقیقت میں اس نے ہم سے محبت کی، کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں وہ ہماری طبیعت سے پیدا کئے گئے ہیں لہذا جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ ہم میں سے ہے اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے شیعہ نورِ خدا سے دیکھتے ہیں وہ خدا کی رحمت میں چلتے پھرتے ہیں اور اس کی کرامت سے سرفراز و کامیاب ہوتے ہیں۔ (۱)

ابوالحسن سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے شیعوں سے عداوت کی اس نے ہم سے عداوت کی اور جس نے ان سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی کیونکہ وہ ہم ہی میں سے ہیں وہ ہماری طبیعت سے خلق کئے گئے ہیں جس نے ان سے محبت کی وہ بھی ہم میں سے ہے اور جس نے ان سے دشمنی کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے شیعہ نورِ خدا سے دیکھتے ہیں اور اسکی رحمت میں چلتے پھرتے ہیں اور اس کی کرامت سے سرفراز ہوتے

.....

(۱) بخار الانوار: ۶۸ ص

ہیں اگر ہمارے شیعوں میں سے کسی کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے مرض سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں۔

اور اگر ان میں سے کوئی غمگین ہوتا ہے تو اس کے غم سے ہمیں بھی رنج ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی شیعہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہے خواہ وہ مشرق و مغرب میں کہیں بھی ہو اور اس کے اوپر کچھ قرض ہو تو ہمارے ذمہ ہے اور اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو وہ اس کے دارث کا ہے۔

ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار رہتے ہیں یہی لوگ صاحبان ایمان و تقویٰ اور یہی اہل زہد و درع ہیں، جس نے ان کی بات کو رد کر دیا اس نے خدا کے حکم کو رد کر دیا اور جس نے ان پر طعن کیا اس نے خدا پر طعن کیا کیونکہ

یہی خدا کے حقیقی بندے ہیں، یہی اس کے سچے دوست ہیں، خدا کی قسم اگر ان میں سے کوئی ربیعہ و مضر کے قبیلے کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا تو خدا اس کی اس عظمت کی بنابر جو اس کی نظر میں ہے ان کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ (۱)

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۳ صفات الشیعہ

### اہل بیت کے شیعوں پر اور شیعوں کے اہل بیت پر حقوق

صرف اہل بیت ہی اپنے شیعوں سے اور ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری نہیں کرتے ہیں بلکہ جس طرح شیعوں پر اہل بیت کے حقوق ہیں کہ وہ خدا کی طرف ان کی ہدایت و راہنمائی کریں اور ان کو حدود خدا کی تعلیم دیں اور انہیں عبادیت کے آداب سکھائیں اسی طرح ان کے شیعوں پر بھی لازم ہے کہ ان سے سیکھیں۔

ابوقتادہ نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعوں کے حقوق ہم پر زیادہ واجب ہیں بہ نسبت ہمارے حقوق کے جوان کے ذمہ ہیں۔ عرض کیا گیا کہ فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کیسے؟ فرمایا: اس لئے کہ ان پر ہماری وجہ سے مصیبت پڑی ہے مگر ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت نہیں پڑتی۔

## اہل بیت سے محبت اور نسبت کے شرائط

اہل بیت سے محبت و نسبت کے عام شرائط اور ان کی محبت کی قیمت کے بارے میں کہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے کچھ عام شرطیں ہیں اہل بیت سے یہ نسبت و محبت اسی وقت شر بخش ہوتی ہے جس وقت یہ شرائط پورے ہوتے ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط تفہم، تبعید، تقویٰ، ورع، مومنوں اور مسلمانوں سے میل ملاپ، نظم و ضبط، لوگوں کے ساتھ نیک بر塔و امامتداری اور سچ گوئی بھی ہے۔

ان شرائط کے بغیر محبت حقیقی نہیں ہو سکتی، پیشک حقیقی محبت اہل بیت کے سچ اتباع ہی میں ہے۔

یہ نکات اہل بیت کی ان تعلیمات سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے اپنے شیعوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو دی تھیں ملاحظہ فرمائیں:

"کونوا النازیناً ولا تكونوا علیناً شیناً"

ہمارے لئے باعث زینت بننگ و عار کا سبب نہ بنو۔

ائمہ اہل بیت اپنے شیعوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے زینت کا باعث بنیں نگ و عار کا سبب نہ بنیں کیونکہ جب وہ اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں گے اور اسلامی ادب سے سنورجاں نیں گے تو لوگ اہل بیت کی مدح کریں گے اور یہ کہیں گے انہوں نے اپنے شیعوں کی

کتنی اچھی تربیت کی ہے اور جب لوگ شیعوں کے لین دین، بد اخلاقی ان کے غلط برداو، حدود خدا اور اس کے حلال و حرام سے ان کی لا پرواٹی کو دیکھیں گے تو، ان کی وجہ سے وہ اہل بیت پر بھی نکتہ چینی کریں گے۔

سلیمان بن مہران سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں جعفر بن محمد صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس کچھ شیعہ بھی موجود تھے اور آپ فرمار ہے تھے: اے شیعو! ہمارے لئے باعثِ زینت بنو اور ننگ و رسولی کا سبب نہ بنو لوگوں سے نیک بات کہو، اپنی زبان پر قابو رکھو سے بری بات اور فضول کہنے سے باز رکھو۔ (۱)

امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اے شیعو! تم کو ہم سے نسبت دی جاتی ہے پس تم ہمارے لئے باعثِ زینت بنو، ہمارے لئے ننگ و عار کا سبب نہ بنو۔ (۲)

آپ ہی کا ارشاد ہے: خدا حم کرے اس شخص پر جس نے لوگوں کے درمیان ہمیں محبوب بنا یا اور ان کے درمیان ہمیں مبغوض و منفور نہیں بنایا۔ خدا کی قسم اگر وہ ہمارے کلام کے محاسن دیکھ لیتے تو اس کے ذریعہ انہیں اور کوئی شخص کسی بھی چیز کے ذریعہ ان پر فائق نہ ہوتا۔ (۳)

آپ ہی کا قول ہے: خدا حم کرے اس شخص پر جس نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی اور ان میں ہماری طرف سے بغض نہیں پیدا کیا خدا کی قسم اگر وہ ہمارے کلام کے محاسن دیکھ لیتے تو یہ ان کے لئے زیادہ باعثِ عزت ہوتا اور پھر کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے ذریعہ ان پر فوقیت حاصل نہ کر پاتا لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص ہماری کوئی بات سن لیتا تو اس

میں دس کا اور اضافہ ہوتا۔ (۴)

آپ ہی سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عبد الاعلیٰ نہیں (یعنی شیعوں کو) ہمارا سلام  
کہہ دینا خدا ان پر حکم کرے اور یہ کہہ دینا کہ امام نے یہ کہا ہے: خدا حکم کرے اس

.....

(۱) امامی طوی: ج ۲ ص ۵۵ بحوار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۱

(۲) مشکاة الانوار: ص ۶۷

(۳) مشکاة الانوار: ص ۱۸

(۴) روضۃ الکافی: ص ۲۹۳

بندے پر کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف بھی مائل کیا اور ہماری طرف بھی اور وہ ان  
کے سامنے ایسی ہی چیز کو بیان کرتا ہے جس کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے ایسی چیز کا  
اظہار نہیں کرتا جس کو بر اسمجھتے ہیں۔ (۱)

امام جعفر صادق ہی فرماتے ہیں: اے شیعو! ہمارے لئے باعث زینت بنو، سببِ ذلت و  
رسوانی نہ بنو، لوگوں سے اچھی اور نیک بات کہو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے فضول  
و بری بات کہنے سے باز رکھو۔ (۲)

## اہل بیت خدا سے شفاعت کریں گے اور اس سے بے نیاز نہیں ہیں

بیشک اہل بیت خدا کے ذریعہ بے نیاز ہیں، خدا سے بے نیاز نہیں ہیں وہ خدا کے اذن سے خدا سے شفاعت کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گے۔

پس جو شخص اہل بیت کی محبت و ولایت اور ان سے نسبت کے ذریعہ خدا کی عبادت و طاعت اور تقویٰ و ورع سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے وہ مسلکِ اہل بیت سے ہٹ گیا ہے اس نے غیر وہ کامدہب اختیار کر لیا ہے اور اس کو اہل بیت کی محبت و مودت سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

عمرو بن سعید بن بلاں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت ہماری ایک جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا: تم معتدل بن جاؤ یعنی میانہ روی اختیار کرو کہ اس سے آگے بڑھ جانے والا تمہاری طرف پلٹ آئیگا اور پچھے

.....

(1) بخار الانوار: ج ۲ ص ۷۷

(2) بخار الانوار: ج ۱ ص ۷۱

رہ جانے والا تم سے ملحت ہو جائیگا اور اے آل محمد کے شیعو! یہ جان لو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے اوپر ہماری کوئی جست ہے اور طاعت کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا پھر جو خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو گا اس کو ہماری ولایت سے فائدہ پہنچے گا لیکن جو عاصی و نافرمان ہو گا اس کو ہماری ولایت سے

کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کے بعد ہماری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا: دھوکا نہ دو اور افتراء پر داڑی نہ کرو۔ (۱)

اب جو بھی اہل بیت کو چاہتا ہے اور ان کے مکتب سے منسوب ہونا چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اسے یہ جان لینا چاہئے کہ خدا کے اذن کے بغیر اہل بیت کسی کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچاسکتے ہیں، وہ بندے ہیں خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا کے مقرب ہیں۔ پس جو بھی اہل بیت کو چاہتا ہے اور ان کی محبت کے ذریعہ خدا کا تقریب حاصل کرنا چاہتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا طلبگار ہے اسے خدا سے ڈرنا چاہئے، اور صالحین کے راستہ پر چلنا چاہئے۔

حضرت علی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا سے ڈرو! تمہیں کوئی دھوکا نہ دے اور کوئی شخص تمہیں نہ جھٹلائے، کیونکہ میرا دین وہی دین ہے جو آدم کا دین تھا جس کو خدا نے پسند کیا ہے اور میں میں بندہ و مخلوق ہوں خدا کی مشیت کے علاوہ میں اپنے نفع و ضرر کا بھی مالک نہیں ہوں اور میں وہی چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے۔ (۲)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۷۸

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۸۹ محسن برقی سے منقول ہے۔

## تفوی اور ورع

اہل بیت نے اپنے شیعوں کو جو صیتیں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ تقوے اور درع کی صیتیں ہیں، ان کے شیعہ وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جس شیعہ کا تقویٰ اور درع زیادہ ہو گا اہل بیت کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو گی، کیونکہ تشیع کا جو ہر، اتباع، تاسی اور اقتداء ہے اور جو شخص اہل بیت کی اقتداء کرنے والا ہے ان کی اقتداء کے لئے طاعتِ خدا، تقویٰ اور درع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔

ابوالصباح کنانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: ہم کو کوفہ میں آپ کی وجہ سے ذلیل سمجھا جاتا ہے لوگ ہمیں جعفری کہتے ہیں، یہ سن کر امام جعفر صادق غضب ناک ہوئے اور فرمایا: تم میں سے جعفر کے اصحاب بہت کم ہیں، جعفر کے اصحاب تو وہی ہیں کہ جن کی پاک دامنی زیادہ اور جن کا عمل اپنے خالق کے لئے ہے۔ (۱) عمر و بن بیحی بن بسام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ فرماتے ہیں: لوگوں کے درمیان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واران کے شیعہ درع و پاک دامنی کے زیادہ حقدار ہیں۔ (۲)

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ درع و جانفشاںی کے اہل ہیں، وہ وقار و امانتداری کے اہل ہیں، وہ زہد و عبادت کے اہل ہیں، شب و روز میں اکیاون

رکعت نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، خانہ خدا کا حج  
کرتے ہیں اور ہر حرام چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ (۳)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۶

(۲) بشارت المصطفیٰ ص ۱۷۱

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۸

آپ ہی کا ارشاد ہے: خدا کی قسم علی کا شیعہ تو بس وہی ہے جس نے اپنے شکم و شرمگاہ کو پاک  
رکھا، اپنے خلق کے لئے عمل کیا، اس کے ثواب کا امیدوار رہا اور اس کے عذاب سے ڈرتا  
رہا۔ (۱)

آپ ہی سے مردی ہے: اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے شیعو! سن لو کہ وہ شخص ہم میں سے  
نہیں ہے جو غیظ و غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے اور اپنے ہمنشین کے لئے اچھا  
ہمنشین ثابت نہ ہوا اور جو اس کی ہمراہی اختیار کرے یہ اس کے لئے اچھا ساختی ثابت نہ  
ہوا اور جو اس سے صلح کرے تو یہ اس سے بہترین صلح کرنے والا ثابت نہ ہو۔ (۲)

امام جعفر صادق کا ارشاد ہے: وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو کسی شہر میں ہوا اور اس شہر میں ہزاروں  
لوگ ہوں اور اس شہر میں کوئی اس سے زیادہ پاک دامن ہو۔ (۳)

کلیب بن معاویہ اسدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام صادق سے سننا کہ  
فرماتے ہیں: خدا کی قسم تم خدا اور فرشتوں کے دین پر ہو پس ورع و کوشش اور جانفشنی کے

---

ذریعہ میری مدد کرو۔ (۴)

کلیب اسدی ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام صادق سے سنا کہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم تم لوگ خدا اور اس کے فرشتوں کے دین پر ہو پس اس سلسلہ میں تم ورع و کوشش کے ذریعہ میری مدد کرو، تمہارے لئے نمازِ شب اور عبادت ضروری ہے اور تمہارے لئے ورع لازم ہے۔ (۵)

.....

(۱) گذشتہ حوالہ

(۲) بخار الانوار: ج ۷۸ ص ۲۶۶۔

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۴۔

(۴) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۴۔

(۵) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۷۸ بشارۃ المصطفیٰ ص ۵۵ ص ۱۷۴

صاحب بصائر الدرجات نے مرازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں مدینہ گیا تھا، جس گھر میں میرا قیام تھا اس میں میں نے ایک کنیز کو دیکھا وہ مجھے بہت پسند آئی لیکن اس نے میرے ساتھ نکال کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں رات کا ایک تھائی حصہ گزرنے کے بعد واپس آیا، دروازہ کھل کھٹایا تو اسی کنیز نے دروازہ کھولا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینہ پر رکھ دیا، اس نے بھی کچھ حرکت کی یہاں تک کہ میں گھر میں داخل ہو گیا، اگلے دن میں ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے مرازم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جس

نے تہائی میں ورع سے کام نہیں لیا۔ (۱)

ایک شخص نے رسول کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فلاح شخص اپنے بھسا یہ کی ناموس کو دیکھتا ہے اگر اسے مل جائے تو وہ پاک دامنی کا خیال نہیں کرے گا، یہ سن کر رسول کو غنیظ آگیا، تو دوسرے آدمی نے کہا: وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اور علی سے محبت رکھتا ہے اور آپ دونوں کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: یہ نہ کہو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے وہ جھوٹ کہتا ہے ہمارا شیعہ تو بس وہی ہے جو ہمارے اعمال میں ہمارا اتباع کرتا ہے اور جس شخص کا تم نے ذکر کیا ہے اس نے ہمارے اعمال میں ہمارا اتباع نہیں کیا ہے۔ (۲)

ایک شخص نے امام حسن سے عرض کی: میں آپ کا شیعہ ہوں، امام حسن نے فرمایا: اے خدا کے بندے اگر تم ہمارے اوامر میں ہمارے تابع ہو اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان میں ہمارے مطیع ہو تو تم سچے ہو اور اگر تمہارا عمل اس کے برخلاف ہے تو تمہارے گناہوں کے ساتھ اس دعوے سے تمہارے مرتبہ میں اضافہ نہ ہو گا تم اس کے اہل نہیں ہو اور یہ نہ کہو کہ

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۳ بصار الدرجات ص ۲۴۷

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۵ -

میں آپ کا شیعہ ہوں ہاں یہ کہو: میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آپ کا محب ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ (۱)

ایک شخص نے امام حسین سے عرض کی: فرزد رسول میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے دل ہر قسم کے مکروہ فریب اور خیانت و کینہ سے محفوظ ہیں۔ (۲) ابوالقاسم بن قولویہ کی کتاب سے اور انہوں نے محمد بن عمر بن حنظله سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: امام صادق نے فرمایا: جو اپنی زبان سے خود کو ہمارا شیعہ کہتا ہے اور ہمارے اعمال و احکام میں مخالفت کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنی زبان اور اپنے دل سے ہماری موافقت کرتے ہیں اور ہمارے احکام میں ہمارا اتباع کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہی ہمارے شیعہ ہیں۔ (۳)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۶۔

(۲) گذشتہ حوالہ۔

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۴ ج ۱۳۔

## تعبد و بندگی

ابوالمقدام سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا: مجھ سے امام محمد باقر نے فرمایا: اے ابوالمقدام علی کے شیعہ تو بس وہی ہیں بھوک کے سبب جن کے چہرے مر جھائے ہوئے، بدن دبلے پتلے اور نجیف ولا غر، ہونٹ سوکھے ہوئے، شکم پشت سے چپکے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے اور چہرے زرد ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے تو وہ زمین ہی کو اپنا فرش و بستر بنالیتے ہیں، اپنی

پیشانیوں کو زمین پر رکھتے ہیں، ان کے سجدے زیادہ، اشک فشانی زیادہ، ان کی دعا زیادہ اور ان کا رونا زیادہ ہوتا ہے، جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ مخزون ہوتے ہیں۔ (۱)

روایت ہے کہ ایک رات امیر المؤمنین مسجد سے نکل، رات چاندنی تھی آپ قبرستان میں پہنچ، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک جماعت بھی آپ کے پاس پہنچ گئی آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا:

امیر المؤمنین ہم آپ کے شیعہ ہیں آپ نے ان کی پیشانیوں کو غور سے دیکھا اور فرمایا: مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے اندر شیعوں کی کوئی علامت نہیں پاتا ہوں؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین شیعوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: بیدار رہنے کی وجہ سے ان کے رنگ زرد، رونے کے سبب ان کی آنکھیں کمزور، مستقل کھڑے رہنے کے باعث کمر طیڑھی اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے شکم پشت سے چپکے ہوئے اور دعا کے سبب ہونٹ مر جھائے ہوتے ہیں اور ان پر خاشعین کی گرد پڑھی ہوتی ہے۔ (۲)

ابونصیر سے اور انہوں نے امام صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ پاک دامن، زحمت کش، وفادار و امین، عابد و زاہد، شب و روز میں اکیاون رکعت نماز پڑھنے والے، راتوں میں عبادت میں مشغول رہنے والے، دنوں میں روزہ رکھنے والے اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے والے خانہ کعبہ کا حج کرنے والے اور ہر حرام چیز سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ (۳)

شیخ صدوق نے ﴿ صفات الشیعہ ﴾ میں اپنی اسناد سے محمد بن صالح سے انہوں نے

ابوالعباس دینوری سے انہوں نے محمد بن حفیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب علی

.....

(۱) خصال: ج ۲ ص ۵۸ بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۴۹ و ۱۵۰

(۲) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۱ و ۱۵۲ امامی طوسی: ج ۱ ص ۲۱۹ -

(۳) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۷ صفات الشیعہ ۱۶۲ - ۱۶۴

اہل جمل سے جنگ کے بعد بصرہ تشریف لائے تو احف بن قیس نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی دعوت کی کھانا تیار کیا اور احف نے کسی کو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بلا نے کے لئے بھیجا آپ تشریف لائے اور فرمایا: اے احف میرے اصحاب سے کہہ دا اندر آجائیں، تو آپ کے پاس خشک مشکیزہ کی طرح خاشع و انکسار پرور ایک گروہ آیا: احف بن قیس نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! یہ ان کا کیا حال ہے؟ کیا کم کھانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ یا جنگ کے خوف کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہے؟!

آپ نے فرمایا: نہیں! اے احف بیشک خداوند عالم کچھ لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے اس دنیا میں عبادت کرتے رہیں [کیونکہ ان کی عبادت] ان لوگوں کی عبادت کی طرح ہے کہ جن پر قیامت کے قریب ہونے کے علم کی وجہ سے ہیجانی کیفیت طاری ہے اور قبل اس کے کہ وہ قیامت کو دیکھیں انہوں نے اسکے لئے مشقت اٹھا کر خود کو تیار کیا ہے اور جب وہ اس صحیح کو یاد کرتے ہیں کہ جس میں خدا کی بارگاہ میں اعمال پیش کئے جائیں گے تو وہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ایک بڑا شعلہ نکلے گا اور تمام مخلوق کو ان کے پروردگار کے

سامنے اکٹھا کرے گا اور لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا اور ان کے گناہوں کی براہیاں آشکار ہو جائیں گئی یہ سب سوچ کر قریب ہے کہ ان کی جانبیں پھیل کر پانی پانی ہو جائیں اور انکے قلوب خوف کے پروں سے پرواہ کرنے لگیں اور جب خود کو بارگاہ الٰہی میں تنہ محسوس کرتے ہیں تو دیگر کے کھولتے ہوئے پانی کی طرح کھولنے لگتے ہیں اور انکی عقليں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔

وہ رات کی تاریکی میں مصیبت زدہ لوگوں کی طرح آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے نفس کے کرتوت پغمبلین رہتے ہیں لہذا ان کے بدن لاغر، ان کے دل مغموم و مخرون، ان کے چہرے کرخت، ہونٹ مر جھائے ہوئے اور شکم پتلے ہیں، انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے وہ نشہ میں ہوں، رات کی تنہائی میں بیدار رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ظاہری و باطنی اعمال کو خدا کے لئے خالص کر لیا ہے، ان کے دل اس کے خوف سے بے پرواہیں ہیں اگر تم انہیں رات میں اس وقت دیکھو کہ جب آنکھیں سورہی ہوں، آوازیں خاموش ہو گئی ہوں اور گردش رک گئی ہو تو اس وقت قیامت کا خوف انہیں سونے سے باز رکھتا ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے: کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات میں آجائے جب سور ہے ہوں۔ (۱)

اور وہ گھبرا کر اٹھتے ہیں اور باؤاز بلند روتے ہوئے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کبھی گریہ کرنے لگتے ہیں اور کبھی تسبیح پڑھتے ہیں اور کبھی اپنے محراب عبادت میں چنج مار کر روتے ہیں، وہ تاریک رات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ صف باندھ کر خاموشی سے روئیں، اے

انھف اگر تم ان کو راتوں میں دیکھو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں تو تم ان کو اس حالت میں پاؤ گے کہ کمریں جھکی ہوئی ہیں اور اپنی نمازوں میں قرآن کے پاروں کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے رونے اور ہائے ویلار کرنے میں شدت پیدا ہو گئی ہے جب وہ سانس لیتے ہیں تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان کے لگے میں آگ بھری ہوئی ہے اور جب وہ گریہ کرتے ہیں تو تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان کی گردنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔

اگر تم انہیں دن میں دیکھو گے تو تم انہیں ایسا پاؤ گے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور لوگوں سے اچھی بات کہتے ہیں: اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم سلامت رہو (۲)، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو احتیاط و بزرگی سے گزر جاتے ہیں۔ (۱)

.....

(۱) سورہ اعراف: ۷۶:-

(۲) الفرقان: ۶۳:-

اپنے قدموں کو انہوں نے تھمت والی باتوں کی طرف بڑھنے سے روک رکھا ہے اور اپنی زبانوں کو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے گنگ بنار کھا ہے اور انہوں نے اپنے کانوں کو دوسروں کی فضول باتوں کو سننے سے روک رکھا ہے۔

اور اپنی آنکھوں میں گناہوں سے بچنے کا سرمد لگا رکھا ہے اور انہوں نے دارالسلام میں داخل

ہونے کا قصد کر رکھا ہے اور یہ دارالسلام وہ جو اس میں داخل ہو گا وہ شک اور رنج و محن سے امان میں رہے گا۔ (۲)

امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: امام زین العابدین اپنے گھر میں تشریف فرماتھے کہ کچھ لوگوں نے دروازہ پر دستک دی۔ آپ نے ایک کنیز سے فرمایا: دیکھو دروازہ پر کون ہے؟ انہوں نے کہا: آپ کے شیعہ ہیں، یہ سن کر آپ دروازہ کھول کر ان لوگوں کو دیکھا تو واپس لوٹ گئے اور فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، ان کے چہروں پر شیعہ کی علامت کہاں ہے؟ عبادت کا اثر کہاں ہے؟ پیشانی پر سجدہ کا نشان کہاں ہے؟ ہمارے شیعہ تو بس اپنی عبادتوں اور اپنی پریشان حالی سے پچانے جاتے ہیں، کثرت عبادت سے ان کی ناک زخی ہو گئی ہے ان کی پیشانی اور اعضاء سجدہ پر گٹھے پڑ گئے ہیں، ان کا پیٹ پتلا ہو گیا ہے، ہونٹ مر جھا گئے ہیں، عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے مر جھا گئے ہیں، راتوں کی بیداری نے ان کی جوانی کو متغیر کر دیا ہے اور دن کی گرمی نے ان کے بدن کو پکھلا دیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو یہ تسبیح کرتے ہیں اور جب لوگ سوتے ہیں تو یہ نماز پڑھتے ہیں اور جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ

.....

(۱) افرقاں: ۷۲:

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۷۱ و ۱۷۲ منقول از صفات الشیعہ ۱۸۳

محروم ہوتے ہیں۔ (۱)

نوف بن عبد اللہ بکائی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مجھ سے علی نے فرمایا: اے نوف، ہم پاک طینت سے خلق کئے گئے ہیں اور ہمارے شیعہ ہماری ہی طینت سے پیدا ہوئے ہیں اور روز قیامت وہ ہم ہی سے ملحق ہو جائیں گے۔

نوف نے کہا: اے امیر المؤمنین مجھے اپنے شیعوں کے صفات بتائیے پس آپ اپنے شیعوں کو یاد کر کے روئے اور فرمایا: اے نوف خدا کی قسم ہمارے شیعہ حليم و بردبار، خدا اور اس کے دین کی معرفت رکھنے والے، اس کے حکم پر عمل کرنے والے، اس کی محبت کی وجہ سے ہدایت یافتہ، عبادت کی وجہ سے خجیف والا غر اور دنیا سے بے رغبتی کے سب خرقہ پوش، نماز شب برپا رکھنے کے باعث ان کے چہروں کے رنگ زرد، روئے کے سبب آنکھیں چندھیائی ہوئیں اور ذکر خدا کی کثرت سے ہونٹ سوکھے ہوئے۔ بھوکا رہنے کے باعث پیٹ کمر سے لگے ہوئے، ان کے چہروں سے ربانیت اور ان کی پیشانیوں سے رہبانیت آشکار ہے وہ ہر تاریکی کا چراغ ہیں، ہر اچھی جماعت کا چھوپا ہیں، ان کی براہمیاں ناپید، ان کے دل محروم، ان کے نفس پاک، ان کی حاجتیں کم، ان کے نفس مشقت میں اور لوگ ان سے راحت میں ہیں وہ عقل کے جام اور نجیب و خالص، اگر وہ سامنے ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے اور وہ لا پتا ہو جاتے ہیں تو کسی کو ان کی تلاش کی فکر نہیں ہوتی یہ ہیں میرے بہترین شیعہ اور معزز و محترم بھائی مجھے ان سے ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے۔ (۲)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۹

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۷۷ امامی طوی: ج ۲ ص ۱۸۸

## رات کے عابد دن کے شیر

نوف ایک رات کا قصہ بیان کرتے ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ آپ کے گھر کی  
چھت پر سورہ ہے تھے، امام نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ایک مشناق کی طرح آسمان کے  
ستاروں کو دیکھا پھر فرمایا: اے نوف تم سورہ ہے ہو یا بیدار ہو؟ انہوں نے کہا: بیدار ہوں۔  
فرمایا: اے نوف! کیا تم میرے شیعہ کو جانتے ہو؟ میرے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے ہونٹ سو  
کھے ہوئے، شکم کمر سے لگے ہوئے، ربانیت اور رہبانیت ان کے چہروں سے آشکار ہے، وہ  
رات کے عابد اور دن کے شیر ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو وہ ایک چادر کو لگنی کی طرح  
باندھ لیتے ہیں اور دوسرا کو اوڑھ لیتے ہیں۔

وہ صرف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، ان کی آنکھوں  
سے ان کے رخساروں پر آنسو بہتے ہیں اور وہ خدا سے اپنی نجات کی دعا کرتے ہیں اور دن  
میں وہ حلیم و بردبار، عالم و ابرار اور پرہیزگار ہیں۔ (۱)

مذکورہ حدیث میں رات کے راہب اور دن کے شیر بہترین تعبیر ہے جو ان کے رات دن کے  
حالات کو بیان کرتی ہے، وہ شب کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو تم

انہیں رکوع، سجود اور بارگاہِ خدا میں خشوع کرتے ہوئے دیکھو گے، خدا کی بارگاہ میں جہنم سے نجات کیلئے تضرع و زاری کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور جب دن نکل آتا ہے تو وہ میدان مقابلہ میں علماء اور بردار و متقی ہوتے ہیں، حکم، ثابت تدم، صابر اور مقاومت کرنے والے ہیں۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۹۱۔

سَمَةُ الْعَبِيدِ مِنَ الْخُشُوعِ عَلَيْهِمْ  
 اللَّهُ أَنْ ضَمَّتْهُمُ الْأَسْحَارُ  
 فَإِذَا تَرْجَلْتَ الصَّحْنَ شَهَدَ لَهُمْ  
 بِيِضِ الْقَوَاضِبِ أُمِّهُمْ أَهْرَارٌ

ترجمہ:

جب رات ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے تو ان کے اندر خدا کے بندوں کی  
 علامت خشوع پیدا ہو جاتی ہے اور جب دن نکل آتا ہے تو تیز تلواروں کی چمک گواہی دیتی  
 ہے کہ یہ آزاد ہیں۔

رات میں ذکر خدا اور دن میں تقویٰ اکنی زندگی میں شب و روز کی روح کا شعار ہے۔

## شب و روز میں اکیاون رکعت نماز پڑھتے ہیں

امام صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ ورع و جانشنازی سے کام لینے والے ہیں وہ باوفا، امانتدار اور زاہد و عبادت گزار ہیں، شب و روز میں اکیاون رکعت نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں اور ہر ہرام چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ (۱)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: ہمارے شیعہ تو ہی ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ اپنی خاکساری، خشوع، امانت کی ادائیگی اور ذکرِ خدا کی کثرت سے بچانے جاتے ہیں (۲)

امام صادق فرماتے ہیں: ہمارے شیعوں کے پیٹ خالی، ہونٹ مر جھائے ہوئے اور وہ نحیف ولا غر ہوتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو وہ آہ وزاری کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ (۳)

ابوحجزہ ثماني نے یحیی بن ام الطولیل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے خبردی اور انہوں نے نو ف بکائی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: مجھے حضرت امیر المؤمنین سے کوئی کام تھا، لہذا میں، جندب بن زہیر ربع بن خیثم اور ان کے بھانجے ہمام بن عبادہ بن خیثم آپ

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۷

(۲) تحف العقول: ص ۲۱۵

(۳) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۸۶۔

کے پاس گئے، دیکھا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اعتماد کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لئے بڑھے۔

جب انہیں امیر المؤمنین نظر آئے تو وہ کھڑے ہو کر آپ کی طرف دوڑے، آپ کی خدمت میں سلام بجا لائے آپ نے ان کا جواب دیا پھر فرمایا: یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا: اے امیر المؤمنین یہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ نے ان کے لئے نیک بات کہی پھر فرمایا: اے لوگو! مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم میں اپنے شیعوں کی کوئی علامت نہیں پاتا ہوں اور اہل بیت کے محبوں کی نشانی نہیں دیکھتا ہوں، اس سے ان لوگوں کو شرم آگئی۔

نوف کہتے ہیں: جنبد اور ربیع آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں نے کہا: اے امیر المؤمنین آپ کے شیعوں کی علامت اور ان کی صفت کیا ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا جواب دیا، فرمایا: تم دونوں خدا کا تلقوی اختیار کرو اور نیکی کرو کیونکہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تلقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکیاں انجام دیتے ہیں۔

اس وقت ایک بڑے عبادت گزار، ہمام بن عبادہ نے کہا: میں آپ سے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے آپ اہل بیت کو سرفراز کیا، آپ کو مخصوص قرار دیا۔ اور آپ کو بہت سی فضیلوں سے نوازا، مجھے اپنے شیعوں کے صفات بتائیے، آپ نے فرمایا: قسم نہ دو میں تمہیں سارے صفات بتاؤں گا آپ ہمام کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوئے اور دور کعت

نماز مختصر و مکمل طور پر، مجالے پھر بیٹھ گئے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اس وقت بہت سے لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے آپ نے خدا کی حمد و شناکی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر درود بھیجا پھر فرمایا:

اما بعد: پیشک اللہ جل شناوہ و تقدست آسماؤہ ہنے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے لئے عبادت کو لازمی قرار دیا اور طاعت کو فرض کیا اور ان کے درمیان ان کی معيشت و روزی کو تقسیم کیا اور ان کے لئے دنیا میں ان کے مناسب حال ایک منزل قرار دی، جبکہ وہ ان سے بے نیاز تھا، نہ کسی طاعت کرنے والے کی طاعت اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ کسی نافرمان کی نافرمانی اس کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن خداوند عالم کو یہ علم تھا کہ یہ لوگ اس چیز میں کوتا ہی کریں گے جس سے ان کے حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے اور دنیا و آخرت میں ان کے مصائب کم ہو سکتے ہیں۔ پس اس نے اپنے علم سے انہیں اپنے امر و نبی میں باندھ دیا، اختیار کے ساتھ انہیں حکم دیا اور تھوڑی سی تکلیف دی اور اس پر زیادہ ثواب دیا۔ خدا نے اپنے عدل و حکمت کی بنیاد پر اپنی محبت اور رضا کی طرف تیزی سے بڑھنے والے اور اس میں سستی کرنے والے اور اس کی نعمت سے گناہ میں مدد لینے کے درمیان میں فرق قائم کیا چنانچہ خدا وند عالم کا قول ہے:

(أَمْ حَيْسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً هُمْ يَأْهُمْ وَهُمَا تُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (۱)

کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے گناہ کئے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر

کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیئے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو  
یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔

اس کے بعد امیر المؤمنین نے ہمام بن عبادہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: آگاہ ہو جاؤ!  
وہ شخص جس نے ان اہل بیت کے شیعوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اہل بیت کہ جن کو  
خدا نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے ساتھ اس طرح پاک رکھنے کا اعلان کیا ہے جیسا کہ  
پاک رکھنے کا حق ہے، ان کے شیعہ، خدا کی معرفت رکھنے والے اس کے حکم پر عمل کرنے  
والے اور وہ فضائل و مکالات کے مالک ہیں اور ان کی گفتگو صحیح، ان کا لباس اوسط درجہ کا ہوتا  
ہے اور

.....

(۱) سورہ جاثیہ: ۲۱:-

وہ خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کی طاعت میں خود کو ہلاک کر لیتے ہیں اور اس کی  
عبادت کر کے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ان  
سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اپنے کانوں کو انہوں نے علم دین سننے کے لئے وقف  
کر دیا ہے، مصائب و آلام میں ان کے نفس ایسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و سکون میں، وہ خدا  
کے فیصلہ پر راضی رہتے ہیں اگر خدا نے ان کی مدت حیات مقرر نہ کی ہوتی تو ثواب کے شوق  
میں اور عذاب کے خوف میں ان کی رو جیں چشم زدن کے لئے بھی ان کے بدلنوں میں نہ  
ٹھہر تیں۔

خلق ان کی نظر میں اس قدر عظیم ہے کہ دنیا کی ہر جیزان کی نظر میں حقیر ہو گئی ہے، جنت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے گویا وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت کی مندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے دل رنجیدہ اور (لوگ) ان کے شر سے امان میں ہیں، ان کے بدن لا غر اور ان کی خواہشیں بہت کم اور ان کے نفس پاک و پاکیزہ ہیں، اسلام میں ان کی مدد بہت عظیم ہے، انہوں نے دنیا میں چند دن تکلیف اٹھائی، یقین بخش تجارت ہے جو ان کے خدا نے ان کے لئے میسر کرائی ہے، یہ ذہین ترین لوگ ہیں۔ دنیا نے انہیں بہت لبھایا لیکن وہ اسے خاطر میں نہیں لائے، دنیا نے انہیں طلب کیا مگر انہوں نے اسے عاجز کر دیا۔

راتوں میں وہ مصلائے عبادت پر کھڑے رہتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس سے اپنے نفسوں کو محروم رکھتے ہیں اور اسی سے اپنا علاج کرتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگا پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی طمع میں اُدھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ [پر کیف] منظر ان کی نظر وں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں [دوزخ سے] ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیز پکاران کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدہ میں اپنی پیشانیوں، ہتھیلیوں اور گھٹنوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور جبار عظیم کی تمجید کرتے ہیں اور

پروردگار سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو جنم کی آگ سے آزاد کر دے یہ ہے ان کی رات۔

دن میں یہ بردبار، علماء و دانشوروں نیک کردار اور پرہیزگار ہیں جیسے انہیں خوف خدا نے تیروں کی طرح تراش دیا ہے، دیکھنے والا انہیں دیکھ کر بیمار سمجھتا ہے حالانکہ وہ بیمار نہیں ہیں، ان کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ ان کی باتوں میں فتور ہے جب کہ ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک عظیم چیز نے مدد ہوش بنارکھا ہے اس کا تسلط و باادشاہت ایک عظیم شی پر ہے اس نے ان کے دلوں کو غافل اور ان کی عقولوں کو حیران کر رکھا ہے۔

جب اس سے فرصت ملتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں نیک اعمال بجالانے کی طرف بڑھتے ہیں یہ قلیل عمل سے خوش نہیں ہوتے اور نہ اس کا زیادہ اجر چاہتے ہیں، ہمیشہ اپنے نفوس کو متهم کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال ہی سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں: میں اپنے نفس کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھے سب سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ! مجھ سے ان کی باتوں کا حساب نہ لینا اور مجھے ان کے گمان و خیال سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخشن دینا جن کو نہیں جانتے پیشک تو غیب کا عالم اور عیوب کو چھپانے والا ہے۔

اور ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم دیکھو گے، وہ دین میں قوی ہے اور نرمی میں شدید احتیاط ہے، یقین میں ایمان ہے، علم کے بارے میں حرص ہے، اپنی فتنہ میں سمجھدار ہے، حلم علم ہے، مالداری میں میانہ روی ہے، محتاجی میں خودداری ہے، سختی میں ثابت قدم و صابر ہے،

عبادت میں خاشع ہے، عطا کرنے میں برق ہے۔ کمانے میں نرمی، حلال کی طلب، ہدایت میں نشاط، شہوت میں گناہ سے حفاظت اور استقامت میں نیک ہے۔

جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ اسے دھوکا نہیں دے سکتی اور جس نیک کام کو انجام دے چکا ہے اس کو شمار میں نہیں لاتا، غلط کام میں اس کا نفس سست، بلکہ نیک کام بھی انجام دیتا ہے تو ڈرتے ہوئے۔

صحیح میں وہ ذکرِ خدا کرتا ہے اور شام کے وقت تو شکرِ خدا کی فکر ہوتی ہے، غفلت کی اونگھ سے ڈرتے ہوئے رات بسر کرتے ہیں اور ملنے والے فضل و رحمت کی خوشی میں صحیح کرتے ہیں اگر ان کا نفس کسی ناگوار چیز کے لئے سختی بھی کرتا ہے تو اس کے مطالبہ کو پورا نہیں کرتے ہیں ان کی رغبت باقی رہنے والی اور ان کا پر ہیز فنا ہونے والی چیزوں میں ہے۔ اور عمل کو علم سے اور علم کو حلم سے متصل کیا گیا ہے۔ اس کا نشاط دائمی اس کی سستی اس سے دور، اس کی امید قریب، اس کی غم، اپنی اجل کا منتظر، اس کا دل خاشع، اپنے رب کو یاد کرنے والا، اس کا نفس قانع، اس کا جہل غائب، اس کا دین محفوظ، اس کی شہوت بے جان، اپنے غصہ کو پینے والا، اس کی خلقت صاف ستری، اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ، اس کا کام آسان، اس کا تکبر معدوم، اس کا صبر آشکار، اس کا ذکر بے شمار، وہ دکھاوے کے لئے کوئی نیک کام نہیں کرتا ہے اور نہ شرم کی وجہ سے کسی نیک کام کو ترک کرتا ہے؛ (لوگ) اس سے نیکی کی امید کرتے اور اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اگر یہ غافلوں میں نظر آئیں تو بھی ذکرِ خدا کرنے والوں میں شمار ہوں گے اور اگر ذکرِ خدا کرنے والوں میں دیکھے جائیں تو غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے،

جو ان پر ظلم کرتا ہے یا اسے معاف کر دیتے ہیں اور جو انہیں محروم رکھتا ہے یا اسے عطا کرتے ہیں اور جس نے ان سے قطعِ حجی کی یہ اس سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کی نیکی قریب، ان کا قول سچا ہے، ان کا فعل اچھا، خیر ان کی طرف بڑھتا ہوا، شر ان سے ہٹتا ہوا، مکروہات ان سے غائب، زلزلوں میں باوقار، سختیوں میں صابر، آسانیوں میں شکرگزار، دشمنوں پر ظلم نہیں کرتے اور جو چیز ان کے خلاف ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، گواہی طلب کئے جانے سے پہلے ہی حق کا اعتراض کر لیتے ہیں اور امانتوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ان پر حسد غالب نہیں آتا، ہمسایہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور مصیبتوں میں کسی کو طعنہ نہیں دیتے، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، طاعت پر عمل کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، برا نیوں سے بچتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں، وہ نادانی کی وجہ سے کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں اور عجز کی وجہ سے حق سے خارج نہیں ہوتے۔ اگر خاموش رہتے ہیں تو ان کی خاموشی انہیں عاجز نہیں کرتی ہے اور بولتے ہیں تو ان کی گویائی انہیں عاجز نہیں کرتی ہے اور اگر ہنسنے ہیں تو آواز بلند نہیں ہوتی جو ان کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے اسی پر قناعت کرتے ہیں، نہ ان کو غصہ آتا ہے اور نہ خواہش نفس ان پر غلبہ کرتی ہے، ان پر بخشنده تسلط نہیں پاتا ہے، وہ لوگوں سے علم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور صلح و سلامتی کے ساتھ ان سے جدا ہوتے ہیں، فائدہ رسانی کے لئے گفتگو کرتے ہیں، سمجھنے کے لئے سوال کرتے ہیں، ان کا نفس ان کی وجہ سے رنج و محنت میں اور لوگ

ان سے راحت و امن میں رہتے ہیں، اپنے نفس سے لوگوں کو آرام پہنچاتے ہیں اور آخرت کے لئے اسے تھکاتے ہیں۔

اگر کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں تاکہ خدا اس سے انتقام لے، گذشتہ اہل خیر کی اقداء کرتے ہیں لپس وہ اپنے بعد والے کے لئے نمونہ ہیں۔

یہی لوگ خدا کے کارندے ہیں اور اس کے امر و طاعت کے حامل ہیں، یہی اس کی زمین اور اس کی مخلوق کے چراغ ہیں، یہی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ہیں، یہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہے۔

یسن کر ہام بن عبادہ نے ایک چیخ ماری اور ان پر بیہوٹی طاری ہو گئی، لوگوں نے انہیں حرکت دی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان پر رحم کرے۔ ربِ نے روتے ہوئے کہا: اے امیر المؤمنین آپ کے وعظ نے میرے بھتیجے پر کتنی جلد اثر کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔

امیر المؤمنین نے فرمایا: نصیحت اپنے اہل پر اسی طرح اثر کرتی ہے خدا کی قسم مجھے اسی کا خوف تھا اس وقت کسی نے کہا: اے امیر المؤمنین اس نصیحت نے آپ پر کیوں نہ اثر کیا؟ آپ نے فرمایا: خدا تیرا برآ کرے موت کا وقت معین ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کا ایک سبب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، خبردار اب ایسی بات نہ کہنا، اصل میں تیری زبان پر شیطان نے اپنا جادو پھونک دیا ہے۔ (۱)

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۹۵ و ۱۹۲ سید رضی نے اس روایت کو فتح الملاعہ میں تھوڑے سے اختلاف سے نقل کیا ہے۔

### آپ میں ملاقات و محبت

ان شرطوں میں سے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنا اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا بھی ہے۔ ایک دوسرے کا جتنا زیادہ تعاون کریں گے اور آپس میں تعلق بڑھائیں گے اتنا ہی خدا ان کو دوست رکھے گا اور ان کو ان کے دشمنوں سے بچائے گا، ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی مدد کرے گا، ان کے ہاتھ پر اور ان کے ہاتھ کے ساتھ خدا کا ہاتھ ہے بشرطیکہ ان کے ہاتھ جمع ہوں یعنی ان میں اتحاد ہو۔

سدیر صیریٰ فی امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کے کچھ اصحاب بھی آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا: اے سدیر ہمارے شیعوں کی اس وقت تک رعایت، حفاظت، پردہ پوشی کی جائے گی جب تک وہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن نظر اور خدا کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اور اپنے ائمہ کے بارے میں صحیح نیت رکھیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں گے، اپنے کمزور افراد پر مہربانی کریں گے اور محتاجوں کی مالی مدد کریں گے کیونکہ ہم ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتے ہیں لیکن تمہیں ورع اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور تمہیں اپنے بھائیوں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس لئے کہ اولیاء خدا خلقت آدم سے آج تک کمزور ہیں۔ (۱)

محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں امام جعفر صادق کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور سلام کیا آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے بھائیوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے ان کی تعریف و توصیف کی، آپ نے فرمایا: ان کے مالدار اپنے ناداروں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ اس نے کہا: بہت کم پھر فرمایا: ان کے مالداروں کا ناداروں سے کیسا بر塔و ہے؟ اس نے کہا: آپ ایسے اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں جو ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا جو ہمارے یہاں ہیں۔ فرمایا: تو وہ اپنے کو ہمارا شیعہ کیسے سمجھتے ہیں؟ (۲)

(۱) الحسن: ۱۵۸ بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵۳ وص ۱۵۴۔

(۲) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۶۸

امام حسن عسکری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: علی کے شیعہ وہی ہیں جو اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ راہِ خدا میں موت ان پر آپڑے گی یا وہ موت پر جا پڑیں گے، علی کے شیعہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کو خود پر مقدم کرتے ہیں خواہ ان کو اس کی ضرورت ہی ہو، یہی وہ ہیں جن کو خدا اس چیز میں ملوث نہیں دیکھتا جس سے اس نے ڈرایا ہے، اور یہ اس چیز کو ترک نہیں کرتے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا ہے، علی کے شیعہ وہی ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے اکرام میں علی کی اقتداء کرتے ہیں۔ (۱)

امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک دوسرے کے ساتھ صلحِ حنی کرو اور ایک دوسرے پر احسان کرو اور ایسے نیک بھائی بن جاؤ جیسے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ (۲)

آپ ہی کا ارشاد ہے: خدا سے ڈرونیک بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے خدا کے لئے محبت

کرو، ایک دوسرے سے ربط و ضبط رکھو، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو۔ (۳)

علاء بن فضیل نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: امام محمد باقر فرمایا کرتے تھے؛ اپنے دوستوں کی تعظیم کرو ایک دوسرے پر حملہ نہ کرو، ایک دوسرے کو ضررنہ پہنچاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خبردار بخل نہ کرنا، خدا کے مخلاص بندے بن جاؤ۔

(۴)

ابوساعیل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا: ہمارے یہاں شیعوں کی کثیر تعداد ہے۔ آپ نے دریافت کیا: کیا مالدار نادار کا خیال رکھتا ہے؟ اس پر مہربانی کرتا ہے؟ کیا نیکی کرنے والا گناہگار سے درگزر کرتا ہے اور کیا وہ لوگ ایک دوسرے کی مالی مدد کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ شیعہ نہیں ہیں۔ شیعہ وہ ہے جو مذکورہ افعال کو انجام دیتا ہے۔ (۵)

.....

(۱) میزان الحکمة: ج ۵ ص ۲۳۱

(۲) اصول کافی: ج ۲ ص ۱۷۵

(۳) اصول کافی: ج ۲ ص ۱۲۰

(۴) اصول کافی: ج ۲ ص ۱۷۳

(۵) بخار الانوار: ج ۴ ص ۲۵۴

## ایک دوسرے پر مومین کے حقوق

ثقة الاسلام کلبین نے ابوالمامون حارثی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ فرمایا: مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کی محبت رکھتا ہو اور اپنے مال سے اس کی مدد کرتا ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال میں اس کا جانشین ہو، اس پر ظلم ہو تو اس کی مدد کرے، اگر مسلمانوں میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو اور وہ موجود نہ ہو تو اس کے لئے اس کا حصہ لے اور مر جائے تو اس کی قبر پر جائے، اس پر ظلم نہ کرے اور اس کو دھوکا نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے، اس کی تکذیب نہ کرے اس کے سامنے اف بھی نہ کہے، اگر اف کہدیا تو ان کے درمیان ولایت کا رشتہ ختم ہو جائیگا اور اگر ایک نے دوسرے سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے دشمن ہو تو ان میں سے ایک کافر ہو گیا اور اگر اس پر تہمت لگا دیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان اس طرح گھل جاتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ (۱)

کلبین نے ہی ابان بن تغلب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں امام جعفر صادق کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص میرے سامنے آیا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو جو کام ہے اس کے لئے میں بھی اس کے ساتھ جاؤں، اس نے مجھے اشارہ کیا، مجھے

یہ بات پسند نہ آئی کہ میں امام کو چھوڑ کر اس کے پاس جاؤں، میں ایسے ہی طواف میں مشغول رہا، اس نے مجھے پھر اشارہ کیا تو آپ نے اسے دیکھ لیا۔ فرمایا؛ اے اباں کیا وہ تمہیں بلا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے اصحاب ہی میں

.....

(۱) اصول کافی: ج ۲ ص ۱۷۱۔ بخار الانوار: ج ۷۴ ص ۲۴۸

سے ایک شخص ہے آپ نے فرمایا: تو اس کے پاس جاؤ، میں نے عرض کیا: میں طواف کو قطع کر دوں؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا خواہ طواف واجب ہی ہو، فرمایا: ہاں۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔

پھر میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے یہ بتائیے کہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ فرمایا: اے اباں اس کو واپس نہ لوٹاؤ، میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ٹھیک ہے۔ فرمایا: اے اباں اسے واپس نہ لوٹاؤ، میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ٹھیک ہے میں نے اسے کبھی واپس نہیں کیا ہے۔ فرمایا: اے اباں اپنا نصف مال اسے دے دو، راوی کہتا ہے کہ پھر امام نے میری طرف دیکھا اور میری حالت کو ملاحظہ کیا، پھر فرمایا: اے اباں کیا تمہیں نہیں معلوم اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرنے والوں کا خدا نے ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں معلوم ہے، فرمایا: اگر تم نے اس کو نصف مال دیدیا تو اس کو اپنے اوپر مقدم نہیں کیا اس کے لئے ایشان نہیں کیا بلکہ تم اور وہ دونوں برابر ہو گئے، ایشان تو اس صورت میں ہو گا جب تم اس کو باقی ماندہ نصف بھی دیدو گے۔ (۱)

امام رضا سے سوال کیا گیا کہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ فرمایا: مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہو، اپنے مال سے اس کی مدد کرتا ہو، اس پر ظلم ہو تو اس کی مدد کرتا ہو، اگر مسلمانوں میں فی نقیبیم ہو رہی ہو اور وہ موجود نہ ہو تو اس کے لئے اس کا حصہ لے وہ مر جائے تو اس کی قبر پر جائے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو فریب نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کا ساتھ نہ چھوڑے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی تکذیب نہ کرے اور اس کے سامنے اف تک نہ کہے اور اگراف کہہ دیا تو ان دونوں کے درمیان سے ولایت و محبت

.....

(۱) اصول کافی: ج ۲ ص ۷۱ بخار الانوار: ج ۷۴ ص ۲۴۹۔

ختم ہو جائے گی اور اس کے دل میں ایمان ایسے ہی گھل جائیگا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اور اگر کوئی کسی مومن کو پیاس میں پانی پلاتا ہے تو خدا اسے مہربند جام سے سیراب کرے گا اور جو شخص مومن کو کپڑا پہناتا ہے اسے خدا جنت کے سندس و حریر کا لباس عطا کرے گا اور جو شخص خدا کے لئے کسی مومن کو قرض دیتا ہے اسے صدقہ میں شمار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسے ادا کروے اور جو مومن دنیا کے کرب والم سے نجات دلاتا ہے خدا اسے آخرت کے کرب والم سے نجات عطا کرے گا اور جو شخص مومن کی حاجت روائی کرے گا تو یہ اس کے روزہ اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ مومن (مومن کے لئے) ایسا ہی ہے جیسے بدن کے لئے پنڈلی

ہوتی ہے۔

بیشک امام محمد باقر نے خانہ خدا کعبہ کا رخ کیا اور کہا: ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے کہ جس نے تجھے عظمت و بزرگی عطا کی اور تجھے لوگوں کے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ قرار دیا۔ خدا کی قسم مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔

اہل جبل میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا، جب وہ جانے لگا تو اس نے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت و نصیحت فرمادیجھے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈروا! اپنے مومن بھائی کی مدد کرو اور اس کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور اگر وہ تم سے سوال کرے تو اسے پورا کرو اور اس کے لئے بازو بن جاؤ اگر وہ ستم ظریغی بھی کرے تو بھی اس سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ اس کے دل سے کینہ نکال دو۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرو اور موجود ہو تو اسے اپنے میں شامل کرو، اس کے بازو اور پشت کو مضبوط کرو اور اس کی عزت کرو، اس پر مہربانی کرو کیونکہ وہ تم سے اور تم اس سے ہو، اور تمہارا اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلانا اور اسے خوش کرنا روزہ رکھنے سے افضل ہے اور اس کا عظیم اجر ہے۔ (۱)

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن شکم سیر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو اور وہ سیراب نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی پیاسا ہو، وہ کپڑا نہیں پہن سکتا جب کہ اس کا بھائی برہنہ ہو، اگر تمہیں کوئی حاجت در پیش ہو تو اس سے سوال کرو اور اگر وہ تم سے سوال کرے تو اسے عطا کرو، تم اس سے نہ اکتا وہ تم سے نہ اکتا ہے، تم اس کے پشت پناہ بن جاؤ

کیونکہ وہ تمہارا پشت پناہ ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں تم اس کی حفاظت کرو اور اگر وہ موجود ہو تو اس سے ملاقات کرو اور اس کی عزت واکرام کرو کیونکہ وہ تم سے اور تم اس سے ہو۔ اگر وہ تمہیں سرزنش بھی کرے تو بھی اس سے جدائہ ہونا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کا غصہ ختم ہو جائے اگر اسے کوئی فائدہ ہو تو تم خدا کا شکر ادا کرو اور اگر وہ کسی چیز میں بتلا ہو جائے تو اس کی مدد کرو، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت و طلب ہو تو اس کی اعانت کرو کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے دینی بھائی یادوست سے اف کہتا ہے تو ان کے درمیان سے محبت و اخوت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے دشمن ہو تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایمان اس طرح گھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ (۱)

معلی بن خنیس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ فرمایا: سات حق واجب ہیں: ان میں سے ہر ایک حق اس پر واجب ہے اگر وہ اس کی مخالفت کرے گا تو خدا کی ولایت سے نکل جائیگا اور اس کی طاعت کو چھوڑ دے گا اور اس سے خدا کا تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے عرض کیا: میں

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۴ ص ۲۳۴۔

قربان! بتائیے وہ حقوق کیا ہیں؟ فرمایا: اے معلی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم انہیں ضائع نہ کر دو، اور معلوم کر کے ان پر عمل نہ کرو، میں نے عرض کیا: خدا کے علاوہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے

فرمایا: ان میں سے آسان ترین حق یہ ہے کہ اس کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور اس کیلئے اس چیز کو اچھا نہ سمجھو جس کو اپنے لئے اچھا نہیں سمجھتے ہو۔

دوسری حق: یہ ہے کہ تم اس کی حاجت روائی کے لئے جاؤ اور اس کی رضا طلب کرو، اس کی بات کی مخالفت نہ کرو۔

تیسرا حق: یہ ہے کہ تم اپنی جان و مال، ہاتھ، پیر اور زبان سے اس کے ساتھ صلح رحمی کرو۔

چوتھا حق: یہ ہے کہ تم اس کی آنکھ، اس کے راہنماء اور اس کا آئینہ بن جاؤ۔

پانچواں حق: یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا نہ کھاؤ، اگر وہ ننگا ہے تو کپڑا نہ پہنو، اگر وہ پیاسا ہے تو تم سیراب نہ ہو۔

چھٹا حق: ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ تمہارے پاس بیوی ہو اور تمہارے بھائی کے پاس بیوی نہ ہو اور تمہارے پاس نوکر و خادم ہو اور تمہارے بھائی کے پاس نہ ہو، اگر ایسا ہے تو خدمتا رکن بھیج دیا کروتا کہ وہ اس کے کپڑے دھونے، اس کا کھانا پکا دے، اس کا بستر بچھا دے کہ یہ حق خدا نے تمہارے اور اس کے درمیان قرار دیا ہے۔

ساتواں حق: اس کو اس کی قسم سے بری کر دو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے جنازہ میں شرکت کرو، وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اس کی حاجت روائی میں پوری کوشش کرو اور یہ نوبت نہ آنے دو کہ وہ تم سے سوال کرے اور اگر سوال کرے تو اس کی حاجت روائی کے لئے دوڑو! اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا تو تم نے اپنی ولایت کو اس کی ولایت سے اور اس کی

ولایت کو خدا کی ولایت سے متصل کر دیا۔ (۱)

امیر المؤمنین سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن کو جب اپنے بھائی کی حاجت کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ تکلیف نہیں دیتا ہے کہ وہ اس سے سوال کرے، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے پر مہربانی کرو، ایک دوسرے پر خرچ کرو، منافق کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو وہ کہتا ہے ان جام نہیں دیتا ہے۔ (۲)

محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میرے پاس اہل جبل میں سے ایک شخص آیا میں اس کے ساتھ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے رخصت ہوتے وقت امام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت و وصیت فرمادیجئے تو آپ نے فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو! اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور اس کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور اس کے لئے اس چیز کو پسند نہ کرو جس کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے اگر وہ سوال کرے تو اسے عطا کرو اگر وہ تمہیں دینے سے ہاتھ کچھ لے تو تم اس کے سامنے پیش کرو تم اس کے ساتھ کا کریخیر کرتے رہو وہ بھی تمہارے ساتھ کارخیر کرے گا۔

اس کے بازوں بن جاؤ کیونکہ وہ تمہارا بازو ہے اور وہ تمہارے خلاف ہو جائے تو تم اس سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ اس کی کدورت برطرف ہو جائے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرو اور اگر موجود ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے بازو مضبوط کرو اس کی پشت پناہی کرو اس سے نرمی سے پیش آؤ، اس کی تعظیم و تکریم کرو کیونکہ وہ تم سے اور تم اس

سے ہو۔ (۳)

جابر نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: تمہارے قوی کو تمہارے

.....

(۱) الخصال: ج ۲ ص ۶

(۲) الخصال: ج ۲ ص ۱۵۷

(۳) امالي طوسي: ج ۱ ص ۹۵

کمزور کی اعانت کرنا چاہئے اور تمہارے مالدار کو تمہارے غریب و نادار پر مہربانی کرنا  
چاہئے اور انسان کو چاہئے کہ وہ بھائی کا ایسا ہی خیرخواہ ہو جیسا کہ اپنے نفس کا خیرخواہ ہے اور  
دیکھو! ہمارے اسرار کو پوشیدہ رکھنا، لوگوں کو ہماری گردان پر سوار نہ کرنا۔ (۱)

## مؤمن کی حرمت اور اس کی محبت و خیر خواہی

امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: کسی چیز کے ذریعہ خدا کی عبادت نہیں کی گئی جو  
کہ مؤمن کا حق ادا کرنے سے افضل ہو۔ نیز فرمایا: بیشک خداوند عالم کی بہت سی حرمتیں ہیں  
مثلاً کتاب خدا کی حرمت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حرمت، بیت المقدس کی حرمت اور  
مؤمن کی حرمت۔ (۲)

عبد المؤمن انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں ابو الحسن موسی بن جعفر کی خدمت  
میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس محمد بن عبد اللہ بن محمد جعفی بھی موجود تھے، میں انہیں

دیکھ کر مسکرا یا تو آپ نے فرمایا: کیا تم انہیں دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں، اور میں ان سے آپ ہی حضرات کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا اور انہیں بتادو کہ خدا نے ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے بخشن دیا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کیا ہے، آگاہ ہو جاؤ جس شخص نے میرے دوستوں میں سے میرے کسی دوست کو اذیت دی یا پوشیدہ طریقہ سے اس کے خلاف سازش کی تو اس کو اس وقت تک نہیں بخشنے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا پھر اگر اس سے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے دل سے روح ایمان نکل جائے گی اور وہ میری ولایت و محبت سے خارج ہو جائیگا اور ہماری ولایت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا اور اس سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ (۱)

.....

(۱) امامی طوی: ج ۱ ص ۲۳۶ -

(۲) بخار الانوار: ج ۴ ص ۷۴ - ۲۳۲

صوری کی کتاب قضاء الحقوق میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے شہرا ہواز کے قاضی رفاعة بن شداد بھلی کو ایک خط کے ذیل میں وصیت فرمائی: جہاں تک تم سے ہو سکے مومن کی مدارات کرو کہ خدا نے اس کی حمایت کی ہے اور اس کا وجود خدا کے نزدیک معزز ہے اس کے لئے خدا کا ثواب ہوتا اور اس پر ظلم کرنے والا خدا کا دشمن ہے اس لئے تم خدا کے دشمن نہ بنو۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں: مونم کو جب اپنے بھائی کی حاجت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو مانگنے کی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ (۲)

### مومن، مومن کے لئے ایک بدن کی مانند ہے

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہر چیز کے لئے کوئی چیز آرام کا باعث ہوتی ہے، مونم اپنے مومن بھائی کے پاس اسی طرح آرام محسوس کرتا ہے جس طرح پرندے کو اپنی ہی جنس کے پرندے کے پاس آرام ملتا ہے۔ (۳)

امام محمد باقر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن نیکی، رحم اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے لحاظ سے ایک بدن کی مانند ہیں۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو بیدار رہنے اور حمایت کرنے کے لئے سارے اعضاء متفق ہو جاتے ہیں۔ (۴)

.....

(۱) اختصاص: ص ۲۲۷۔ بخار الانوار: ج ۴ ص ۷۴۔

(۲) اختصاص: ص ۲۲۷

(۳) بخار الانوار: ج ۴ ص ۷۴

(۴) گذشتہ حوالہ

معلی بن خنیس نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کے لئے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اور اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اس سے

سوال کرو اور اگر وہ تم سے سوال کرے تو اسے عطا کرو، نہ تم اسے کارخیر میں ملوں کرو اور وہ تمہیں کارخیر میں ملوں نہیں کریگا، اس کے پشت پناہ بن جاؤ کہ وہ تمہارا پشت پناہ ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرو اور اگر موجود ہو تو اس سے ملاقات کرو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو کیونکہ وہ تم سے ہے اور تم اس سے ہوا گروہ تم سے ناراض ہو جائے تو اس سے جدانہ ہونا یہاں تک کہ اس کی کدورت رفتہ ختم ہو جائے۔ اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ تو اس پر خد ا کا شکر ادا کرو اور اگر وہ کسی چیز میں بنتلا ہو تو اس کو عطا کرو اور اس کا بوجھ ہلکا کرو اور اس کی مدد کرو۔ (۱)

### عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک

اس بات پر اہل بیت نے بہت زور دیا ہے اور اپنے شیعوں کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود کو ملت اسلامیہ کے معتدل راستے سے جدا کریں کیونکہ وہ اس امت کا ایسا جزء ہیں جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اصول و فروع اور محبت و نسبت میں اختلاف اس بات کو واجب قرار دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے قطع تعلقی نہ کی جائے کیونکہ یہ امت اپنے عقائد و نظریات میں اختلاف کے باوجود ایک امت ہے

اَنَّ هُذِهَا اُمَّةٌ كُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّ كُلِّمُ

فَاعْبُدُ وَنِي) بیشک یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس امت کو روئے زمین پر عظیم ترین امت سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے

بڑے

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۴ ص ۲۳۴ -

بڑے چلنج ہیں اور ان چلنجوں کا مقابلہ اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب ساری امت ایک محاڑ پر ایک صفائی میں کھڑی ہو جائے۔

ائمہ اہل بیت امت ہی کے ساتھ اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ تمام مذاہب و مکاتب کے مسلمان ان کے پاس آتے تھے، ان کی مجلس و بزم میں حاضر ہوتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے اگر ہم ان علماء کے نام جمع کریں کہ جنہوں نے امام محمد باقر و امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا ہے تو صاحبان علم کی عظیم تعداد ہو جائے گی، ائمہ اہل بیت کی مجلس و بزم مسلمانوں کے فقهاء و محدثین اور ہر شہر و دیار کے صاحبان علم سے بھری رہتی تھی۔

اس بات سے ہر وہ شخص آگاہ ہے جو ائمہ اہل بیت کی حدیث اور ان کی سیرت سے واقف ہے، یہ ہر قسم کے مذہبی اختلاف سے محفوظ باہم زندگی گزارنے کا ثابت طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اپنے شیعوں اور عام مسلمانوں کے لئے اصول و فروع میں پوری صراحة ساتھ حجج فکری نجح کو بیان کرتے تھے۔

اہل بیت کی حدیثوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس ثابت، محبت آمیز اور تعاون کی زندگی بسر کرنے کی واضح دعوت موجود ہے اس سلسلہ میں اہل بیت کی چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔

محمد بن یعقوب کلین نے اپنی کتاب اصول کافی میں صحیح سند کے ساتھ ابو سامہ زید شحام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: امام جعفر صادق نے فرمایا: ان شیعوں میں سے جس کو تم میری اطاعت کرتے اور میری بات پر عمل کرتے ہوئے دیکھوا سے میرا سلام کہنا۔ میں تمہیں خدا کا تقویٰ اختیار کرنے اور اپنے دین میں ورع، خدا کے لئے جانفشنائی کرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، طویل سجدے کرنے اور نیک ہمسایہ بننے کی وصیت کرتا ہوں یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائی ہے: اگر کسی شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے تو اسے اس کی امانت واپس کر دو خواہ وہ نیک چلن ہو یا بدکار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سوئی دھاگہ کو بھی واپس کرنے کا حکم دیتے تھے۔

اپنے خاندان والوں کے حقوق ادا کرو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دین میں ورع سے کام لے گا اور سچ بولے گا اور امانت ادا کرے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا گا تو کہا جائیگا یہ جعفری ہے، اس طرح وہ مجھے خوش کرے گا اور اس سے مجھے مسرت ہوگی۔ اور یہ کہا جائے گا یہ ہے جعفر کا اخلاق و ادب، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ مجھے بدنام کرے گا اور مجھے اپنی بلا میں مبتلا کرے گا اور پھر یہ کہا جائیگا یہ ہے جعفر کا اخلاق و ادب، خدا کی قسم میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ قبیلہ میں اگر علی کا ایک شیعہ ہو تو وہ پورے قبیلہ و خاندان کی عزت و زینت ہے وہ ان میں زیادہ امانت ادا کرنے والا، سب سے زیادہ حقوق پورے کرنے والا۔ اور سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہو گا اور لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھیں گے اس سے وصیتیں کریں گے جب اس کے بارے میں خاندان میں سوال کیا جائیگا تو

کہا جائیگا، اس کے مثل کون ہے؟ وہ امانت دار اور ہم سب سے سچا ہے۔ (۱) صحیح سند کے ساتھ معاویہ بن وہب سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: ہم اپنے اور اپنی قوم کے اوپر کیسے احسان کریں اور اپنے ہمنشینیوں سے کیسے پیش آئیں؟ آپ نے فرمایا: ان کی امانتوں کو ادا کرو، ان کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دو، ان کے بیاروں کی عیادت کرو اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ (۲)

.....

(۱) وسائل الشیعۃ: ج ۸ ص ۳۹۸ کتاب الحج آداب احکام الحشرۃ پہلا باب پہلی حدیث

(۲) گذشتہ حوالہ دوسری حدیث۔

نیز صحیح سند کے ساتھ معاویہ بن وہب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: ہم اپنی قوم والوں اور ان ہمنشینیوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں جو کہ ہمارے مذہب پر نہیں ہیں؟ فرمایا: اس سلسلہ میں تم اپنے ائمہ کا طریقہ دیکھو، جن کی تم اقتداء کرتے ہو، وہ جس کام کو انجام دیتے ہیں اسی کو تم بجالاؤ، خدا کی قسم وہ ان کے مرضیوں کی عیادت کرے ہیں، ان کے مرنے والوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور حق کے لحاظ سے ان کے موافق اور ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ (۱)

کلینی نے کافی میں صحیح سند کے ساتھ حبیب الحشفی سے ایک اور روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں:

میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں: تمہارے لئے لازم ہے کہ تم کوشش و جانفشنائی سے کام لو اور ورع اختیار کرو، جنائزوں میں شرکت کرو، مریضوں کی عیادت کرو اور اپنی قوم والوں کے ساتھ ان کی مسجدوں میں جاؤ اور لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو، کیا تم میں سے اس شخص کو شرم نہیں آتی کہ جس کا ہمسایہ اس کا حق پہچانتا ہے لیکن وہ اس کا حق نہیں پہچانتا ہے۔ (۲)

صحیح سند کے ساتھ مرازم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: امام صادق فرماتے ہیں: تمہارے لئے لازم ہے کہ تم مسجدوں میں نماز پڑھو، لوگوں کے لئے اچھے ہمسایہ بنو، گواہی دو، ان کے جنائزوں میں شرکت کرو، تمہارے لئے لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی حیات میں لوگوں سے مستغنى و بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ (۳)

.....

(۱) وسائل الشیعہ: ج ۸ ص ۳۹۹ کتاب الحج آداب احکام العشرۃ پہلا باب پہلی حدیث

(۲) گذشتہ حوالہ چوتھی حدیث

(۳) گذشتہ حوالہ پانچویں حدیث۔

## اعتدال و میانہ روی اور موازنہ

اہل بیت کے شیعوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے میانہ روی کو اپنا شعار بناتے ہیں، عقل و فہم میں توازن رکھتے ہیں، غلو و زیادتی اور افراط و تفریط سے پر ہیز کرتے ہیں ان کے اندر محبت و ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔

عمر بن سعید بن ہلال سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا: میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت ہماری ایک جماعت تھی، آپ نے فرمایا: تمہیں میانہ رو ہونا چاہئے کہ حد سے آگے بڑھنے والا تمہاری طرف لوٹے گا اور پیچھے رہ جانے والا تم سے ملحق ہو گا، اے اہل بیت کے شیعو! جان لو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور نہ خدا پر ہماری کوئی جحت ہے اور نہ طاعت کے بغیر خدا سے قریب ہوا جا سکتا ہے پھر جو خدا کا مطیع ہو گا اس کو ہماری ولایت فائدہ پہنچائے گی اور جو نافرمان ہو گا اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ایک دوسرے کو دھوکا نہ دینا اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا۔ (۱)

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۶۸ متنقول از مشکوٰۃ الانوار: ص ۶۰

### حافظتی اور سیاسی ضوابط

اہل بیت کے شیعوں نے اموی اور عباسی عہد حکومت میں بہت سخت زندگی بسر کی ہے، ان سخت حالات کا اقتضا یہ تھا کہ شیعہ ایک حفاظتی اور سیاسی نظم و ضبط کے بہت زیادہ پابند ہو جائیں اور حفاظتی تعلیمات کا بھرپور طریقہ سے خیال رکھیں۔

اہل بیت بھی اپنے شیعوں کو حفاظتی دستورات پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اگر اہل بیت کی تعلیمات نہ ہوتیں اور اہل بیت ان تعلیمات کا التزام نہ کرتے تو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت اہل بیت کے مکتب فکر کو اسی وقت ختم کر دیتی اور یہ مکتب اپنی ثقافتی، فکری اور تربیتی میراث کے ساتھ اس عہد تک نہ آتا۔

ان ضوابط کی ایک اہم شق تقویہ ہے، اور راز کو چھپانا، گفتگو میں احتیاط سے کام لینا، خاموش رہنا، تغافل سے کام لینا انہی تعلیمات کی اہم شقوق میں سے تھا۔

جو لوگ فردی و اجتماعی طور پر ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے ان کی وجہ سے مکتب اہل بیت اور ان کے شیعوں کو نقصان پہنچتا تھا۔

اہل بیت نے اپنے شیعوں کو جو سیاسی و حفاظتی تعلیمات دی تھیں ہم اس کے کچھ نمونے بیان کرنا چاہتے ہیں: امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات میں آزماؤ کہ وہ کیسے اس کی پابندی کرتے ہیں؟ اور ہمارے دشمن سے ہمارے راز کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ (۱)

سلیمان بن مہران سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: میں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا،

اس وقت آپ کے پاس کچھ شیعہ موجود تھے اور آپ یہ فرمادیکھے: ہمارے لئے باعث زینت بنو باعث ننگ و عار نہ بنو، اے شیعو! اپنی زبانوں پر قابو رکھو، فضول با تین نہ کیا کرو۔ (۲)

امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے شیعوں کی دو خصلتوں کو ختم کرنے میں اپنے ہاتھ کا گوشت فدیہ میں دے دیتا۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۴۹

(۲) گذشتہ حوالہ ص ۱۵۱۔

امام صادق ہی فرماتے ہیں: کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں ان کا امام ہوں، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں کیونکہ میں نے جتنے پر دے ڈالے تھے انہوں نے سب کو چاک کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہے۔ (۱)

امام محمد باقر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اے میسر! کیا میں تمہیں اپنے شیعوں کے بارے میں بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: میں قربان ضرور بتائیے؛ فرمایا: وہ مضبوط قلعے ہیں، محفوظ سرحدیں ہیں، قوی العقل ہیں وہ رازوں کو افشا نہیں کرتے ہیں وہ کھڑے اور اجاد نہیں ہیں، شب کے راہب اور دن کے شیر ہیں۔ (۲)

امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا سے ڈرو! اور تقدیم کے ذریعہ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ (۳) آپ ہی کا ارشاد ہے: خدا کی قسم کسی چیز سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی کہ

جو خبیث سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہو، دریافت کیا گیا کہ خبیث کیا ہے؟ فرمایا: تقویہ۔ (۴)  
 امام زین العابدین نے فرمایا: خدا کی قسم میری تمثنا ہے کہ اپنے شیعوں کی دو خصلتوں کے لئے  
 میں اپنے بازو کے گوشت کے برابر فدیہ کروں۔ ایک ان کا طیش اور دوسرے، راز کو کم پوشیدہ  
 رکھنا۔ (۵)

امام جعفر صادق نے فرمایا: لوگوں کو دو خصلتوں کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے انہیں ضائع کر  
 دیا۔ پس ان کے پاس کوئی چیز نہ ہی اور وہ ہیں صبر اور راز چھپانا۔ (۶)

سلمان نے خالد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: امام جعفر صادق نے فرمایا:  
 اے سلمان تمہارے پاس ایک دین ہے جو اسے (مخالفوں اور دشمنوں سے) چھپائے

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۲ ص ۸۰

(۲) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۸

(۳) امالی مفید: ص ۵۹

(۴) اصول کافی: ج ۲ ص ۲۱۸

(۵) اصول کافی: ج ۲۲۱ بخار الانوار: ج ۷۵ ص ۷۲ خصال صدق: ص ۴

(۶) اصول کافی: ج ۲ ص ۲۲۲

گا، خدا اسے عزت عطا کرے گا اور جو اس راز کو فاش کرے گا خدا اسے ذمیل کرے گا۔ (۱)  
 امام محمد باقر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم مجھے اپنے اصحاب میں وہ بہت زیادہ

محبوب ہے جو ان میں زیادہ پاک دامن، زیادہ سمجھدار اور فقہ کا زیادہ جانے والا اور ہماری باتوں کو زیادہ چھپانے والا ہے۔ (۲)

امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم وہی کہو جو ہم نے بیان کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم نے لب کشائی نہیں کی ہے اس کے بارے میں تم بھی زبان نہ کھولو۔

آپ ہی کا رشاد ہے: جس شخص نے ہماری باتوں اور حدیثوں کا راز فاش کر دیا اس نے ہمیں غلطی و خطاء سے قتل نہیں کیا ہے بلکہ ہمیں جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ یہ عجیب تعبیر ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ (۳)

جو لوگ دنیا کے اسلام میں بننے والے اہل بیت کے پیروں کے راز کو فاش کرتے تھے اور یہ کام وہ اس وقت انجام دیتے تھے جب بنی عباس کی حکومت کا ظلم اپنے عروج پر تھا گویا یہ جان بوجھ کر حکومت کو شیعوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اگرچہ یہ کام وہ غلط نیت سے انجام نہیں دیتے تھے بلکہ وہ لوگوں سے اہل بیت کی حدیثیں بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے مکتب کو تسلیم کر لیں اور شیعیت پھیل جائے، یہ سب محبت و عقیدت ہی میں ہوتا تھا، لیکن ان چیزوں کی نشر و اشاعت ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔

.....

(۱) اصول کافی: ج ۲۶ ص ۲۲۶

(۲) بخار الانوار: ج ۷۵ ص ۷۶

(۳) بخار الانوار: ج ۲ ص ۴

## اہل بیت کی محبت و عقیدت سے متعلق کچھ باتیں

انشاء اللہ ہم عنقریب اہل بیت کی محبت و عقیدت سے متعلق کچھ فقرے بیان کریں گے اور ان فクロں کو اہل بیت کی زیارت سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جوز یار تین اہل بیت سے مردی ہیں وہ ان کی محبت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے مفہوم سے بھری پڑی ہیں۔ زیارت کے متن میں غور و فکر کر کے ہم محبت و بیزاری کے مکمل نظریہ کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی اس مقالہ میں محبت و برات کی تحقیق اور ان سے متعلق نظریہ کی تشکیل کی گنجائش ہے، ہم تو یہاں زیارت و اہل بیت کی دوسری حدیثوں سے کچھ ایسے فقرے پیش کرنا چاہتے ہیں جو محبت و عقیدت سے متعلق ہیں۔

### مفہوم و کاء

یہ عناصر و لاء کا پہلا عنصر ہے اور جتنی معرفت ہوتی ہے اسی تناسب سے وراء کی قیمت ہوتی ہے اور انسان جس قدر مفہوم و لاء کو اچھے طریقہ سے سمجھتا ہے اسی لحاظ سے وہ وراء میں قوی اور راست ہو گا۔

زیارت جامعہ میں آیا ہے:

"اُشہد اللہ و اشہد کم اُنی مؤمن بکم و بما آمنتتم بہ، کافر بعدو کم و بما کفرتم بہ، مستبصر بشانکم، و بضلالۃ من خالفکم، مؤمن بسر کم و علائیتکم، و شاہد کم و غائبکم۔"

میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور آپ حضرات - اہل بیت - کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان لایا ہوں کہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، میں آپ کے دشمن کا منکر ہوں اور ہر اس چیز کا دشمن ہوں جس کو آپ نے ٹھکرایا ہے، آپ کی عظمت و شان کا اور آپ کی مخالفت کرنے والے کی گمراہی کی بصیرت رکھنے والا ہوں، آپ کے پوشیدہ و عیاں اور آپ کے حاضر و غائب پر ایمان رکھتا ہوں۔

ہم اس معرفت پر اور اس اپنے اعتماد ایمان پر خدا اور اہل بیت کو گواہ قرار دیتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہمیں قطعاً شک نہیں ہوتا ہے۔  
مندرجہ بالا فقرہ میں ولاء کے دو پہلو ہیں:

ایک ثابت: میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے۔  
دوسرامنی: وہ ہے بیزاری، میں آپ کے دشمن کا منکر ہوں اور ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس کو آپ نے ٹھکرایا ہے، یہاں کفر کے معنی ٹھکرانے اور انکار کرنے کے ہیں تو اس لحاظ سے مذکورہ فقرے کے یہ معنی ہوں گے، میں نے آپ کے دشمنوں کو چھوڑ دیا ہے بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرات نے چھوڑ دیا ہے۔  
اس سے پہلے والے جملہ میں اور اس جملہ میں ولاء کی قیمت اثبات و نفی کے ایک ساتھ ہونے

میں ہے۔ ایک کو قبول کرنے میں اور دوسرے کو چھوڑنے میں ہے انسان کو اکثر صرف قبول کرنے کی زحمت نہیں دی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑنے کی بھی تکلیف دی گئی ہے۔

اور قبول و انکار کو بصیرت و ذہانت کے ساتھ ہونا چاہئے، تقلید کی بنابری نہیں جیسا کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں  
، مستبصر بشأنکم وبضلالة من خالفكم۔

میں آپ کی عظمت و رفت و فعت اور آپ کے مخالف کی ضلالت اور گمراہی کی بصیرت رکھتا ہوں اس جملہ میں درج ذیل تین نکات ہیں۔

۱۔ قبول عام ہے:

"مؤمن بسركم و علانیتكم"

میں آپ کے پوشیدہ و ظاہر پر ایمان رکھتا ہوں۔

۲۔ انکار و ترک، اہل بیت کے تمام دشمنوں اور ان کی ٹھکرائی ہوئی تمام چیزوں کو شامل ہے۔

"کافر بعدو کم و بما کفر تم به"

میں نے آپ کے دشمنوں اور آپ کی ٹھکرائی ہوئی تمام چیزوں کو ٹھکرایا ہے۔

۳۔ یہ قبول و انکار بصیرت و معرفت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔

"مستبصر بشأنکم وبضلالة من خالفكم"

میں آپ کی عظمت و رفت و فعت کی اور آپ کے مخالف کی ضلالت کی معرفت و بصیرت رکھتا ہوں۔

### تصدیق

ولاء تصدیق سے جدا نہیں ہو سکتی، ولاء کے لئے شک و شبہ سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہے۔ خداوند عالم نے راہِ ولاء میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی ہے۔ بیشک رب کریم نے ولاء کو توحید سے جوڑا ہے اور ولاء کو فرد و امت کا محور قرار دیا ہے، چنانچہ توحید کے بعد اسی کی طرف لوگوں کی رغبت دلائی ہے؛ فرماتا ہے: (نَمَا وَلِيْمُ اللَّهُ وَرُسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا) اور فرماتا ہے: (أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُوْلَ وَأَذْلِمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ولاء تک پہنچنے کے راستے کو واضح ہونا چاہئے تاکہ ولاء کے سلسلہ میں لوگوں کے پاس دلیل و جدت ہو، اسی لئے ولاء تصدیق سے جدا نہیں ہے اور تصدیق یقین سے ہوتی ہے اور یقین دلیل و جدت سے ہوتا ہے۔

اور زیارت جامعہ میں اہل بیت کو اس طرح مخاطب قرار دیا ہے:

"سعدا من والاكم، و هلك من عاداكم، و خاب من جحداكم و ضلل من فارقاكم و فاز من تمسك بكم، و أمن من لجا اليكم و سلم من صدقكم و هدى من اعتصم بكم"

جو آپ کی ولاء سے سرشار ہوا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ سے عداوت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے آپ کا اور آپ کے حق کا انکار کیا اس نے گھٹا گھٹایا اور جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے آپ سے تمسک کیا اس نے اپنے مقصد کو پالیا۔ اور جس نے آپ

کی طرف پناہ لی وہ امان میں رہا اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ صحیح و سالم رہا اور جو آپ سے وابستہ ہو گیا وہ ہدایت پا گیا۔

### عضوی نسبت

۱۔ ہم ان عناصر سے بحث کریں گے جن سے ولاء وجود میں آتی ہے اس کے لئے ضروری ہے پہلے اس لفظ کے حروف کی وضاحت کی جائے جیسا کہ اس عہد میں ہمارے ادبیات کا شیوه ہے اور یہ بہت اہم بات ہے معمولی نہیں ہے۔ اجتماعی ربط و ضبط اور رسم و راہ سے ہمارے عہد کا ادب اس لفظ کے معنی کو بیان کرنے سے قاصر ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم خط اتفاقی کے نجح سے لوگوں کے درمیان بحث کا اس جیسا رشتہ نہیں پاتے اور دوسرا طرف خط عمودی کے اعتبار سے سیاسی قیادت، اور ثقافتی مرجعیت اور طاعت و پیروی ہے جیسے ولاء اور ان دونوں خطوطوں کے لحاظ سے ولاء کا تعلق امت سے منفرد ہے:

۲۔ خدا و رسول اور صاحبان امر سے امت کا ربط خط عمودی کے اعتبار سے ہے، جو کہ طاعت، محبت، مدد، خیرخواہی اور اتباع کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس ربط کا اوپر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے: جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (أَطْبِعُوا اللَّهَ وَ أَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَ كَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو اور نیچے کی طرف سیادت و حاکمیت اور اطاعت ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: (نَمَا وَ لَكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ مِنْ يُتَقْبِلُونَ

الصَّلَاةُ وَبِيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ وَحُكْمُ رَأْيِهِمْ) یہ خط عمودی ہے اس کا سلسلہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔

خط صعودی سے ہماری مراد امت کا اپنے صاحبان امر سے محبت کرنا ہے اور خط نزولی سے مراد صاحبان امر کا امت سے محبت کرنا ہے، اس کے ایک سرے پر حکیمت اور دوسرے پر رعایہ ہے۔

۲۔ خط افتقی، یعنی لوگوں کا اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اسی کو قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ﴿نَمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ﴾ امام حسن عسکری نے آبہ اور قم والوں کے سامنے اس لفظ کی وضاحت اس طرح فرمائی، ﴿الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا مَهْوَ لَهُ﴾ (۱) یعنی مومن، مومن کا مادری و پدری بھائی ہے، یہ ایک ایسا لگاؤ اور محبت ہے کہ جس کی مثال دوسری امتوں، اور شریعتوں میں نہیں ملتی ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمین بھائی بھائی ہیں ان کا خون برابر ہے اور وہ اپنے غیر کے لئے ایک ہیں۔ اگر ان کا چھوٹا کسی کو پناہ دیتا ہے تو سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ (۲)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۵ ص ۳۱۷

(۲) امامی مفید: ص ۱۱۔

امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ﴿مُؤْمِنٌ، مُؤْمِنٌ كَبَّهُ﴾ ہے دونوں ایک بدن کے مانند

ہیں کہ اگر بدن کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دکھ پورے بدن کو ہوتا ہے۔

(۱) ۳۳۳

امام جعفر صادق مولوں کو وصیت فرماتے ہیں: ایک دوسرے سے ربط و ضبط رکھو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک دوسرے پر حم کرو، اور بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ خداوند کریم نے تمہیں حکم دیا ہے (۲) یہ ہے ولاء کا خط افتقی۔

اس سے قوی، متین اور مضبوط رشتہ میں دوسری امتوں میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اس وضاحت کے اعتبار سے ولاء عبارت ہے اس عضوی نسبت سے جو کہ ایک رکن کو خاندان سے ہوتی ہے ایک رکن و ستون پوری عمارت کو رو کے رکھتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے سیسیہ پلائی ہوئی عمارت، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ایک خاندان کے افراد کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بدن کے اعضاء کا ہوتا ہے، یہ اخوت کا رشتہ اس رشتہ سے کہیں مضبوط ہوتا ہے جو ایک خاندان کے افراد کے درمیان ہوتا ہے۔

اس صورت میں یہ محبت اور لگاؤ ارتباٹ و علاقہ سے جدا ایک رشتہ ہے جو امت میں داخل ہے جس کو عضوی نسبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے فرد کا رشتہ خاندان سے اور عضو کا بند سے ہوتا ہے۔

اور جب ولاء کا دار و مدار خط افتقی میں تعاون، ایک دوسرے سے ربط و ضبط، خیرخواہی، نیکی، بھائی چارگی، احسان و مودت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ضمانت اور

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۴ ص ۲۶۸

(۲) اصول کافی: ج ۲ ص ۱۷۵

ہنگام وغیرہ پر ہے۔ تو خط ععودی میں والا کا دار و مدار، طاعت، تسلیم و محبت، نصرت و پیروی، وابستگی، اتباع، تمکن اور ان سے اور ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے ذمہنوں سے قطع تعلقی اور برات و بیزاری کرنے پر ہے۔

اس نکتے کے آخر میں ہم یہ بیان کر دیں کہ، محبت کرنا اور بیزار ہونا کوئی تاریخی قضیہ نہیں ہے کہ جو ہماری سیاسی زندگی اور آج کی تہذیب سے جدا ہو۔

اور امام جعفر صادق نے ولاء کی جو تعریف کی ہے اس کے لحاظ سے وہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس کا ہماری اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں زندگی گزارتے ہیں۔ امام کا ارشاد یہ ہے: جتنی اہمیت ہم ولاؤ دیتے ہیں اتنی کسی چیز کو نہیں دیتے ہیں۔

ولاء یعنی طاعت، محبت، نسبت، بیزاری، صلح و سلامتی اور جنگ اور ہماری موجودہ سیاسی و اجتماعی موقف ہے۔

جب تک کہ ولاء و بیزاری ہمارے عقائد کو حرکت عمل کی طرف نہ بڑھائے اور شرعی ولایت کے طول میں سیاسی میدان میں جنگ صلح میں نمایاں نہ ہواں وقت تک ولاء و بیزاری کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو کہ ہم اہل بیت سے وارد ہونے والی نصوص میں بیان ہوئی ہے۔

اب ہم انشاء اللہ ولاء سے متعلق ان فقرتوں کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے جو زیارات میں اہل بیت سے نقل ہوئے ہیں یہ زیارات ولاء کے مفہوم سے معمور ہیں۔

## برات و بیزاری

ولاء و محبت کا ایک پہلو، برات و بیزاری ہے اور ولاء و برات ایک ہی قضیہ کے دورخ ہیں اور وہ نسبت ہے اور اور یہ برات قضیہ کی نسبت میں بہت ہی دشوار پہلو ہے اور برات کے بغیر ولاء ناقص ہے، ایک شخص نے امیر المؤمنین کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں۔ (یہی ناقص ولاء ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں) امیر المؤمنین نے اس سے فرمایا: تو اس صورت میں تم بھینگنے ہو (بھینگنے کو پوری چیز نظر نہیں آتی ہے) اگر تم اندھے ہو (اس صورت میں برات و بیزاری کے ساتھ ولاء بھی ختم ہو جاتی ہے) یا تم دیکھتے ہو (تو ولاء و برات جمع ہو جاتی ہیں)۔

زیارت جامعہ میں آیا ہے: میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور آپ حضرات کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ پر ایمان لایا اور ہر اس چیز پر ایمان لایا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے، آپ کے دشمن سے بیزار ہوں اور ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس کو آپ نے ٹھکرایا ہے، میں آپ کی عظمت کی اور آپ کے مخالف کی گمراہی کی بصیرت رکھتا ہوں، میں آپ کا دوست اور آپ کے دوستوں کا دوست ہوں، میں آپ کے دشمنوں سے بعض رکھنے والا ہوں اور ان کا دشمن ہوں۔

زیارت عاشورہ میں تو خدا کے دشمنوں سے کھلم کھلا اور شدت کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہوا ہے:

"لَعْنَ اللَّهِ أَمَةً قُتِلَتُكُمْ، وَلَعْنَ اللَّهِ الْمُمْهَدِينَ لَهُمْ بِالْتَّمْكِينِ لِقْتَالِكُمْ  
بِرَبِّتِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَا عَهُمْ وَأَتَبَاعَهُمْ وَأَوْلَيَاءُهُمْ".  
خدا عننت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا عننت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں  
نے جنگ کرنے کے لئے زمین ہموار کی، میں خدا کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت جناب  
میں ان سے، ان کے پیروؤں، ان کا اتباع کرنے والوں اور ان کے دوستوں سے بیزار  
ہوں۔

اس زیارت میں صرف خدا کے دشمنوں ہی سے بیزاری کا اظہار نہیں ہوا ہے بلکہ خدا کے  
دوستوں کی پیروی و اتباع کرنے والوں اور ان سے خوش ہونے والوں سے بھی بیزاری ہے  
اور جس طرح ہم اولیاء خدا کی محبت کے ذریعہ خدا سے قریب ہوئے ہیں اسی طرح ہم خدا کے  
دوستوں اور ان کے دوستوں کی دشمنی سے بھی خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ زیارت عاشورہ ہی  
میں ہے:

"إِنِّي أَتَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ بِمَوَالَاتِكُمْ وَبِالْبَرَائَةِ مِنْ قَاتِلِكُمْ وَ  
نَصْبِ لَكُمُ الْحَرْبِ وَبِالْبَرَائَةِ مِنْ أَسْسِ أَسَاسِ ذَلِكَ وَبْنَى عَلَيْهِ بَنِيَانَهُ"  
میں آپ کی محبت و دوستی کے ذریعہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا تقرب حاصل کرتا  
ہوں اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ سے قتال و جنگ کی ہے ان سے بیزار ہوں اور  
جس نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر اس کی عمارت بنائی اس سے بھی بیزاری کے ساتھ خدا کا  
تقرب چاہتا ہوں۔

## ولا اور توحید کا مرط

ولاء توحیدی کے تحت ہے اس کو ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں، اسلام میں ولاء کی قیمت یہ ہے کہ اس کا سوتا توحید کے چشمہ سے پھوٹتا ہے اور توحید کے طول میں آتی ہے، کسی غیر خدا سے کوئی محبت نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کے اذن اور اس کے حکم سے کی جاسکتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے: (أَكُلُّهُ وَلِيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) خدا ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا اور صاحبان امر کی ولایت خدا کے حکم سے واجب ہوتی ہے، جس نے خدا سے محبت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کی اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کی اس نے صاحبان امر سے محبت کی، واضح رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولایت کو خدا کی ولایت سے اور اہل بیت کی ولایت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولایت سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

(مَمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاجِعُونَ) (۱)

تمہارا ولی صرف خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور

"يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ"  
سے حضرت علی ہی مراد ہیں۔

یہ ولایت، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واران لوگوں کی ہے جو ایمان لائے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہی مسلمانوں کے ولی امر ہیں۔ اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت کی ولایت خدا کی ولایت ہی کی کڑی ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد مسلمانوں کے ولی امر کی اطاعت بھی خدا کی اطاعت ہی کی کڑی ہے۔ اور ولایت و طاعت ہی کی طرح محبت بھی ہے۔

.....

(۱) سورہ مائدہ: ۵۵ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کو فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کی آیہ انما و لکیم اللہ کے ذیل میں بیان کیا ہے اور پیغمبر نے نور الابصار ص ۱۷۰ پر زمخشیری نے کشاف میں سورہ مائدہ میں مذکورہ آیت کے ذیل میں ابو السعوڈ نے مذکورہ آیت کے ذیل میں اسی طرح بیضاوی نے اس کو متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے سیوطی نے درمنثور میں اسی آیت کے سلسلہ میں متعدد طریقوں سے روایت کی ہے۔ واحدی نے اسباب النزول ص ۱۴۸ پر، متفقی نے کنز العمال ج ۶ ص ۳۱۹ پر اور ج ۷ ص ۳۰۵ پر پیغمبر نے مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۱۷ پر، طبری نے ذخائر العقینی ج ۸ ص ۱۰۲ پر اور فیروز آبادی نے فضائل الخمسة من الصالحة السنية ج ۲ ص ۱۸ و ۲۴ پر اس کی روایت کی ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: خدا سے اس لئے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے سرشار کیا ہے اور مجھ سے خدا کی محبت کی بدولت

محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری محبت کے باعث محبت کرو۔ (۱)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہی کا ارشاد ہے: خدا سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمت سے سرشار کیا ہے اور مجھ سے خدا کی محبت کی وجہ سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری محبت کے سبب محبت کرو۔ (۲)

بنابر ایں جو شخص خدا سے محبت کرے گا وہ ان حضرات سے بھی محبت کرے گا اور جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا اور جو خدا سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا۔

یہ توحیدی میزان کا ایک پلہ اور دوسرا پلہ یہ ہے کہ جوان سے تولیٰ کرے گا وہ خدا سے تولیٰ کرے گا اور جوان کی اطاعت کرے گا درحقیقت وہ خدا کی اطاعت کرے گا اور جوان سے محبت کرے گا وہ درحقیقت خدا سے محبت کرے گا۔ اس طرح یہ دوستی و ولاء اور توحید کے پلے برابر ہو جائیں گے۔

اس سلسلہ میں درج ذیل روایتوں کو ملاحظہ فرمائیں جو کہ ترازو کے دوسرے پلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں:

.....

(۱) صحیح ترمذی: ج ۱۳ ص ۲۶۱ تاریخ بغداد: ج ۴ ص ۱۶۰ اور اس کو ان دونوں سے علامہ

امینی نے اپنی گراؤں قیمت کتاب سیر تناوس سنتا میں تحریر کیا ہے۔

(۲) صحیح ترمذی کتاب المناقب باب مناقب اہل البیت متدرک حاکم: ج ۳ ص ۱۴۹ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

زیارت جامعہ میں آیا ہے:

"من والا کم فقدوا لاله، ومن عادا کم فقد عادى الله"

جس نے آپ سے محبت کی درحقیقت اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔

اسی زیارت میں آیا ہے:

"من أطاعكم فقد أطاع الله و من عصاكتم فقد عصى الله"

جس نے آپ کی اطاعت کی درحقیقت اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی درحقیقت اس نے خدا کی نافرمانی کی۔

اسی زیارت میں آیا ہے:

"من أحبكم فقد أحب الله و من أبغضكم فقد أبغض الله"

جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔

اور ہم ان کی محبت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعہ خدا سے قریب ہوتے ہیں۔

چنانچہ زیارت عاشورہ میں ہے:

"اُنی اتقرب الی اللہ بموالاتکم و بالبرائۃ همن قاتلک و نصب لک الحرب"

میں آپ کی محبت اور اس شخص سے بیزاری کے ساتھ خدا کا تقرب چاہتا ہوں کہ جس نے آپ سے قوال کیا اور آپ سے جنگ کی۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:  
"من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى علياً  
فقد عصاني"۔ (۱)

جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی (اسی طرح) جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی کی طرف دیکھا اور فرمایا: اے علی! میں دنیا و آخرت میں سید و سردار ہوں تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ (۲)

اسلام میں تولیٰ اور تیری کے مفہوم کے باریک نکات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ولایت خدا اور ولایت اہل بیت کے درمیان جو مکمل توحیدی ربط ہے اسے دقيق طریقہ سے سمجھیں اور دونوں ولایتوں کے درمیان توازن کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اسلام میں جو بھی ولایت ہے وہ خدا کی ولایت کے تخت ہی ہو گی ورنہ وہ باطل ہے اور جو بھی اطاعت ہے اسے بھی خدا کی اطاعت ہی کے تخت ہونا چاہئے اور اگر خدا کی طاعت کے تخت نہیں ہے تو وہ باطل ہے اور ہر

محبت کو خدا کی محبت کے تحت ہونا چاہئے ورنہ خدا کے میزان میں اس کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں ہوگی۔

.....

(۱) حاکم نے متدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۲۱ و ۱۲۸ پر بیان کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ریاض النظرۃ محب الطبری ج ۲ ص ۱۶۷۔ فیروز آبادی کی نضائل الْخَمْسَةِ مِن الصَّالِحِ السَّتَّهِ ج ۲ ص ۱۱۸

(۲) متدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۲۷ اور حاکم نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے خلیفہ نے تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۱۴ پر ابن عباس سے سے پانچ طریقوں سے اس کی روایت کی ہے اور لکھتے ہیں: من احکم فقد احصنی وجی حب اللہ جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور میری محبت خدا کی محبت ہے اور محب نے ریاض النظرۃ ج ۲ ص ۱۶۶ پر نضائل الْخَمْسَةِ مِن الصَّالِحِ السَّتَّهِ للفیروز آبادی ج ۲ ص ۴۴ پر اور اس حدیث کے متعدد طرق نقل کئے ہیں۔

اس سیاق میں یہ بھی ہے کہ اہل بیت خدا کی طرف را ہنمائی کرنے والے اور اس کی طرف بلانے والے ہیں اور اس کے امر سے حکم کرنے والے ہیں، اس کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور خدا کے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔

یہ قضیہ کا ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کو چاہتا ہے اور اس کے راستہ، اس کی مرضی اور اس کے حکم وحدود کو دوست رکھتا ہے اسے اہل بیت کے راستہ پر چلنا چاہئے

اور انکے عمل کو اختیار کرنا چاہئے، اس تو حیدی معادلہ کے دونوں اطراف کو ملاحظہ فرمائیں:  
زیارت جامعہ میں آیا ہے: الٰٰ اللہ تدعون و علیہ تدلون و بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تَسْلِمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ  
الٰٰ سَبِيلَهُ تَرْشِدُونَ وَ بِقُولِهِ تَحْكُمُونَ۔

آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اسی کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے  
ہیں اور اسی کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور اسی کے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے  
راستہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اس کے قول کے مطابق حکم دیتے ہیں۔

یہ قضیہ کا ایک سراہے اور اس کا دوسرا سراہ یہ ہے:

﴿ۚۚ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِدْءَ بَكَمْ وَ مَنْ وَحْدَهُ بَلْ عَنْكَمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوْجِهَ بَكَمْ ۚۚ﴾

اس کی تاکید ایک بار پھر کر دوں کہ ہم ولاء کو خدا کی ولایت کے تحت اسی تو حیدی طریقہ سے  
سمجھ سکتے ہیں، اگر اہل بیت کی ولایت، طاعت اور محبت ولایت خدا کے تحت نہیں ہے تو وہ  
اہل بیت کی تعلیم اور ان کے قول کے خلاف ہے۔

## سلام و نصیحت

یہ بھی ولاء کے دروخ ہیں یعنی صاحبان امر کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، سلام اس لگاؤ کا سلبی رخ ہے اور نصیحت اس لگاؤ کا ایجادی رخ ہے، اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں:

صاحبان امر (رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت) پر سلام بھیجنا جیسا کہ زیارات کی نصوص میں وارد ہوا ہے یہ سلام مقولہ خطاب سے نہیں ہے بلکہ سلام کا تعلق مقولہ ارتباط و علاقہ سے ہے اور خطاب کو علاقہ اور ارتباط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

صاحبان امر پر جو سلام بھیجا جاتا ہے اس کے باریک معنی یہ ہیں کہ ہم انہیں اپنے افعال و اعمال کے ذریعہ اذیت نہ دیں کیونکہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں جیسا کہ سورہ قدر اور دوسری روایات اس کی گواہی دے رہی ہیں۔

ان کے دوستوں کے برے اعمال اور ان کا گناہوں اور معصیتوں میں آلوہ ہونا انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اسی طرح ان دو فرشتوں کو رنجیدہ کرتا ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے دوستوں کے نیک و صالح اعمال انہیں خوش کرتے ہیں، ہم صاحبان امر پر سلام والی بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے ہیں۔

ان پر سلام سے متعلق زیارتیں معمور ہیں، زیارت جامعہ غیر معروفہ میں، کہ جس کو شیخ صدوق نے (کتاب من لا تحضره الفقیر) میں امام رضا سے نقل کیا ہے، سلاموں کا سلسلہ ہے ہم ان

میں سے ایک حصہ یہاں نقل کرتے ہیں:

"السلام على أولياء الله وأصحابه، السلام على مناء الله وأحبابه،  
السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام  
على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونفيه، السلام على  
الدعاة إلى الله، السلام على المستقررين في مرضاته الله، السلام على  
المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين  
من والاهم فقدوا إلى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم  
فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد  
اعتضم بالله، ومن تخلى عنهم فقد تخلى عن الله۔"

سلام ہو خدا کے دوستوں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر، سلام ہو خدا کے امین اور اس کے  
احبائے پر، سلام ہو خدا کے انصار اور اس کے خلفاء پر، سلام ہو معرفتِ خدا کے مقام پر سلام ہو،  
ذکرِ خدا کی منزلوں پر، سلام ہو خدا کے امر و نبی کے ظاہر کرنے والوں پر، سلام ہو خدا کی  
طرف بلانے والوں پر، سلام ہو خدا کی خوشنودی کے مرکزوں پر، سلام ہو طاعتِ خدا میں  
خلوص کرنے والوں پر، سلام ہو خدا کی طرف راہنمائی کرنے والوں پر، سلام ہو ان لوگوں پر  
کہ جوان سے محبت کرے تو وہ محبت درحقیقت خدا سے ہو اور جوان سے دشمنی کرے تو اصل  
میں اس کی دشمنی خدا سے ہو، جس نے انکو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اور جس نے ان کو نہ  
پہچانا اس نے خدا کو نہ پہچانا، جوان سے وابستہ ہو گیا وہ خدا سے وابستہ ہو گیا اور جس نے ان کو

چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔

### نصیحت

نصیحت صاحبان امر سے محبت و عقیدت کا دوسرا رخ ہے صاحبان امر کا خیر خواہ ہونا مقولہ توحید سے ہے یہ بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے مخاصنہ محبت کے تحت آتا ہے، یہ ان تین سیاسی قضیوں میں سے ایک ہے جن کا اعلان رسول ﷺ نے جنت الوداع کے موقع پر عام مسلمانوں کے سامنے مسجد خیف میں کیا تھا۔

شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جنت الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے منی کے میدان میں مسجد خیف میں خطبہ دیا پہلے خدا کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: خدا شاداب و خوش رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ رکھا اور پھر اس بات کو اس شخص تک پہنچایا جس نے وہ بات نہیں سنی تھی کیونکہ بہت سے فقهے کے حامل فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقهے کے حامل اس شخص تک اسے پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، تین چیزوں سے مسلمان کا دل نہیں تھلتا ہے:

- ۱- خدا کے لئے خلوص عمل سے۔
  - ۲- مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی سے۔
  - ۳- اور اپنی جماعت کے ساتھ رہنے سے۔
- اس لئے کہ ان کی دعوت انہیں گھیرے ہوئے ہے۔

اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا خون ایک ہی ہے اور ان کے ذمہ چیزوں کی ان کا چھوٹا بھی پابندی کرتا ہے اور وہ اپنے مخالف کے لئے ایک ہیں۔ (۱) اور صاحبان امر اور مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی یہ ہے کہ مسلمان ان کی مدد کرے، ان کی پشت پناہی کرے، انہیں حکم و مستحکم کرے، ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرے، انہیں خیر خواہانہ مشورہ دے ان کی حفاظت کرے ان کے سامنے مسلمانوں کی مشکلیں اور رنج و غم کو بیان کرے یہ اس کی محبت ولگاؤ کا ثابت پہلو ہے۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۲۷ ص ۶۷۔

### نمونہ عمل اور قیادت

ولاء کے مفردات میں سے اہل بیت کی تاسی کرنا بھی ہے۔  
 بیشک خداوند عالم نے پہلے ابراہیم کو اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وارثوں کے لئے بہترین نمونہ عمل قرار دیا تھا اور لوگ ان دونوں کی اقتداء کرتے تھے اور خود کو ان کے لحاظ سے دیکھتے اور پر کھتتے تھے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے:  
 (قد گا نَشَّ لَّمَّا أَسْوَهُ ٰةَ حَكَمَ فِي بُرَّ اَهْيَمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ) (۱)  
 یقیناً ابراہیم میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے۔ نیز  
 فرماتا ہے:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (۲)

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت اور آپ ﷺ کے خلفاء ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی محبت میں، اپنی عائلی زندگی میں، اپنے اہل و عیال سے محبت کرنے میں اور خود سے محبت کرنے میں اور ان سب سے پہلے خدا سے محبت کرنے میں، ہم انہیں کی پیروی کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ تاسی، تعلم نہیں ہے، اہل بیت ہمارے معلم اور نمونہ عمل ہیں، ہم ان کی توجیہات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں اور زندگی میں انہیں کی رسم و رواہ اختیار کرتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسی انہوں نے گزاری ہے، عام لوگوں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ رہتے تھے۔

بیشک ائمہ اہل بیت مخصوص ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسانیت کے لئے کامل

.....

(۱) سورہ متحنہ: ۴ (۲) سورہ احزاب: ۲۱

نمونہ ہیں، خدا نے انہیں میزان و معیار قرار دیا ہے، ہم خود کو انہیں کے معیار پر پرکھتے ہیں پس ہماری جو گفتار و کردار، ہماری خاموشی اور ہماری حرکت و سکون اور ہمارا اٹھنا بیٹھانا کی گفتار و کردار اور ان کے حرکت و سکون کے مطابق ہوتا ہے وہ صحیح ہے اور جوان سے مختلف ہے وہ غلط ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زیارت جامعہ میں نقل

ہونے والے درج ذیل جملے کے یہی معنی ہیں:

"المتختلف عنکم هالک و المتقدم لكم زاهق و اللازم لكم لاحق"  
آپ سے روگردانی کرنے والا فانی اور آپ سے آگے بڑھنے والا مٹ جائیگا اور آپ کا اتباع  
کرنے والا آپ سے ملحق ہو گا۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت اور سنتوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارا  
کردار ان کے کردار کے مطابق ہو جائے، حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں: تم میں اس کی  
طااقت نہیں ہے لیکن تم ورع و کوشش سے میری مدد کرو۔

زیارت جامعہ میں ائمہ کی توصیف میں بیان ہوا ہے: وہ بہترین نمونے ہیں اور بہترین نمونے  
ہی معيار ہیں اور جہاں تک ہو سکے لوگ خود کو ان ہی معياروں پر پرکھیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت نے حضرت ابراہیم اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ  
سے اقدار و اخلاق، عبودیت و اخلاص اور طاعت و تقویٰ کی میراث پائی ہے۔

جو شخص انبیاء کی ہدایت پانا اور ان کے راستہ پر چلنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اہل بیت کی  
اقتداء کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔

زیارت جامعہ میں یہ دعا ہے:

"جعلني الله همن يقتض آثاركم و يسلك سبيلكم و يهتدى بهداكم"  
خدا مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اور آپ کی ہدایت سے  
ہدایت پاتے ہیں۔

### مرنج و مسرت

رنج و مسرت ولاء کی دو حالتیں ہیں اور یہ دونوں محبت کی نشانیاں ہیں کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے غمگین ہونے سے غمگین ہوتا ہے اور اس کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ امام صادقؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ہمارے شیعہ ہم ہی میں سے ہیں انکو وہی چیز رنجیدہ کرتی ہے جو ہمیں رنجیدہ کرتی ہے اور انہیں وہی چیز خوش کرتی ہے جو ہمیں خوش کرتی ہے۔ (۱)

صحیح روایت میں ریان بن شبیب معتصم عباسی کے ماموں سے نقل ہوا کہ امام رضاؑ نے اس سے فرمایا: اے شبیب کے بیٹے اگر تم جنتوں کے بلند درجوں میں ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو تو ہمارے غم میں غم اور ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور ہماری ولایت سے منسلک ہو جاؤ کیونکہ اگر کوئی شخص پھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ محسوس کرے گا۔ (۲)

.....

(۱) امامی طوی: ج ۱ ص ۳۰۵

(۲) امامی صدوق: ص ۷۹ مجلس ۲۷

مسمع سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا: امام جعفر صادقؑ نے مجھ سے فرمایا: اے مسمع! تم عراقی ہو! کیا تم قبر حسینؑ کی زیارت کرتے ہو؟ میں نے عرض کی: نہیں، میں بصری مشہور ہوں،

ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو غایفہ کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے اور ناصبی اور غیر ناصبی قبل میں سے بہت سے لوگ ہمارے دشمن ہیں مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ لوگ سلیمان کے بیٹے سے میری شکایت نہ کر دیں اور وہ میرے درپے ہو جائیں، آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں یاد ہے کہ اس پر کیا احسان کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ پھر فرمایا: کیا تم اس پر غم کا اظہار کرتے ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔

میں اس پر اس قدر آنسو بہاتا ہوں کہ میرے اہل و عیال میرے چہرہ پر اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ میں کھانا نہیں کھاتا خدا آپ کے آنسوؤں پر رحم کرے جو ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں اور ہمارے خوف میں خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب ہم امان میں ہوتے ہیں تو وہ خود کو امان میں محسوس کرتے ہیں۔ تم مرتے دم دیکھو گے کہ تمہارے پاس میرے آباء و اجداد آئے ہیں اور تمہارے بارے میں ملک الموت کوتا کید کر رہے ہیں اور تمہیں ایسی بشارت دے رہے ہیں کہ جس سے مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نتیجہ میں ملک الموت تمہارے لئے اس سے زیادہ مہربان ہو جائے گا کہ جتنی شفیق ماں بیٹے پر مہربان ہوتی ہے۔ (۱)

ابان بن تغلب سے مروی ہے انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

.....

(۱) کامل الزیارات: ص ۱۰۱

ہمارے اوپر ہونے والے ظلم پر رنجیدہ ہونے والے کی سانس تسبیح، ہمارے لئے اہتمام کرنا  
عبادت اور ہمارے راز کو چھپانا را خدا میں جہاد ہے۔ (۱)

ہم اسی خاندان سے ہیں، ہم عقیدہ، اصول، محبت، لغض، ولاء اور برأت میں ان کی طرف  
منسوب ہوتے ہیں۔ اور اس محبت و ولاء کی علامت ان کی خوشی و غم میں خوش اور غمگین ہونا  
ہے۔ لیکن ہم اپنے اس رنج و مسرت کو کیوں ظاہر کرتے ہیں اور اس کو دل و نفس کی گہرائی سے  
نکال کر نعرہ زنی کی صورت میں کیوں لاتے ہیں اور اس کو معاشرہ میں دوستوں اور  
دشمنوں کے درمیان کیوں ظاہر کرتے ہیں۔

اور اہل بیت کی حدیثوں میں اس رنج و بکار خصوصاً مصاحب حسین کے اظہار کی کیوں تاکید کی  
گئی ہے۔

بکر بن محمد ازدی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فضیل  
سے فرمایا: تم لوگ بیٹھتے اور گفتگو کرتے ہو؟ عرض کی: میں آپ پر قربان، ہاں ہم ایسا ہی  
کرتے ہیں۔ فرمایا: میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں لہذا تم (ان مجلسوں میں) ہمارے امر کو  
زنده کرو، خدار حم کرے اس شخص پر جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ (۲)

یہ اظہار غم اور نعرہ زنی ہماری ایمانی کیفیت کا اعلان ہے (یہ ہماری تہذیبی، سیاسی اور ثقافتی  
وابستگی کا اظہار ہے) یہ اعلان و اظہار اور نعرہ زنی اہل بیت سے ہماری وابستگی کا اعلان  
ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہم نے مرور زمانہ میں حفاظت کی ہے جس کو ہم نے سیاسی و ثقافتی  
حملوں سے آج تک بچایا ہے۔

.....

(۱) امامی مفید: ص ۲۰۰، بخار الانوار: ج ۴، ص ۲۷۸

(۲) بخار الانوار: ج ۴، ص ۲۸۲

## ہمراہی اور اتباع

شاید لفظ ہمراہی و معیت مکتب اہل بیت سے منسوب ہونے کے لئے بہترین لفظ ہے، خوشحالی و بدحالی، تنگی و کشادگی، اور صلح و جنگ میں ہم انہیں کے ساتھ ہیں، یہ لفظ زیارت جامعہ میں وارد ہوا ہے گویا تراۃ ولاء کا ایک جملہ ہے ﴿لَا عَلَىٰكُمْ لَامِعٌ عَدُوكُمْ﴾ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں زیارت کا یہ ٹکڑا بعض روایاتوں میں وارد ہوا ہے: لام غیر کم - اور یہ جملہ لام عدو کم ﴿لَا عَلَىٰكُمْ لَامِعٌ عَدُوكُمْ﴾ کی بہ نسبت زیادہ وسیع ہے۔

## ثقافتی اتباع

ولاء میں اتباع کا مفہوم زیادہ وسعت رکھتا ہے۔

یہ مفہوم جنگ و صلح، محبت و عداوت، فکر و ثقافت اور معرفت و فن میں اتباع کو شامل ہے۔

ہم اس سلسلہ میں آزاد ہیں کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی ہمیں علم ملے اسے حاصل کریں لیکن یہ بات جائز ہے اور نہ صحیح ہے کہ ہم سرچشمہ وحی کو چھوڑ کر معرفت و ثقافت دوسرے مرکز سے حاصل کریں اور اہل بیت نے معرفت و ثقافت کو وحی کے چشمے سے حاصل کیا ہے، کیوں نہ ہودہ نبوت کے اہل بیت اور رسالت کی منزل ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کا مرکز ہیں، وحی کے اتر نے کی جگہ ہیں اور علم کے خزینہ دار ہیں جیسا کہ زیارت جامعہ میں وارد ہوا ہے۔

ثقافت اور علم کے درمیان فرق ہے علم بر اہ راست انسان کے چال چلن، عقیدہ، طرز فکر، طریقہ عبادت، محبت، معاشرت، تحرک، اجتماعی و سیاسی سرگرمی و فعالیت وغیرہ پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، لیکن ثقافت انسان کے چال چلن اس کے افکار، طریقہ معيشت و معاشرت اور عبادت، خدا، کائنات اور انسان سے متعلق نظریہ و تصور پر بر اہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔

اور علوم بے پناہ ہیں، جیسے، دوسازی و دوافروشی، تجارت، اقتصادیات، محاسبہ، ریاضیات، انجینئری و معماری، الکٹرونی، ایمیم، جراحت، طبابت، میکانک، فرکس وغیرہ، لوگ آزاد ہیں کہ جہاں بھی انہیں علم ملے اسے حاصل کر لیں، یہاں تک کہ کافر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ علم ایک قسم کا اسلحہ اور طاقت ہے اور مومنین کو چاہئے کہ وہ کافروں اور اپنے دشمنوں سے اسلحہ و طاقت لے لیں۔

ثقافت جیسے اخلاق، عرفان، فلسفہ، فقہ و عقیدہ، دعا، تربیت، تہذیب، طرز معاشرت اجتماعی معيشت و کردار کے زاویے اور ادب وغیرہ۔

ثقافت علم کی مانند نہیں ہے اور نہ ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ہم ثقافت (معرفت) وحی کے سرچشمہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافت انسان کے چال چلن اور کردار، اس کے طرز فکر، اس کی معيشت، خدا اور لوگوں اور اپنے نفس اور دوسری چیزوں سے محبت و لگاؤ کی کیفیت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ثقافت علم کو محدود رکھتی ہے خصوصاً جب علم صالح ثقافت سے متصل نہ ہو۔ ممکن ہے علم تخریب و فساد کا آلہ کار بن جائے۔ جبکہ ہدایت کرنے اور راہ دکھانے والی ثقافت علم کو لگام لگاتی ہے اور اس سے انسان کی خدمت کے لئے مفید و نفع بخش کام لیتی ہے۔

قرآن مجید، انسان کی زندگی میں، کتاب (ثقافت و معرفت) ہے، جس کو خدا نے انسان کی فکر و کردار کی ہدایت کے لئے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب علم نہیں ہے، اگرچہ علماء نے قرآن مجید میں فلک، نجوم، نباتات، حیوانات، طب اور فلسفہ سے متعلق بے پناہ علوم پائے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کتابِ ثقافت و ہدایت ہی رہا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتاب علم کا ساسلوک کریں گویا وہ علم کی کتاب ہے جس کو خدا نے اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعہ فزکس، کیمیا اور نباتات وغیرہ کا علم حاصل کریں۔ بلکہ وہ ثقافت و معرفت کی کتاب ہے، جس کو خدا نے اس لئے نازل کیا ہے کہ وہ ہمیں طرز زندگی، خدا، کائنات اور انسان کی معرفت کا طریقہ، تصور خدا اور تصور کائنات و انسان کی کیفیت بتائے کہ ہم خدا، لوگوں، اپنے

نفسوں اور دوسرا اشیاء کے ساتھ کس طرح پیش آئیں اور اشیاء کی بلندیوں اور افکار و افراد کا کیسے اندازہ لگائیں۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

(شَهْرُ رَمَضَانَ، الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، هُدًى لِلنَّاسِ، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) (۱)

رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے ساتھ حق و باطل کے امتیاز کی نشانیاں بھی ہیں۔

دوسری جگہ فرماتا ہے:

(وَإِذْ كُرُوا نَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَةُ، يَعِظُكُمْ بِهِ) (۲)

اور تمہارے اوپر خدا نے جو نعمتیں نازل کی ہیں ان کو یاد کرو اور تمہارے اوپر کتاب و

.....

(۱) البقرۃ: ۱۸۵

(۲) البقرۃ: ۲۳۱

حکمت نازل کی ہے جس کے ذریعہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔

نیز فرماتا ہے:

(لَهُدَىٰ بَيَانٍ لِلنَّاسِ وَهُدًىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُسْتَقْبَلِينَ) (۱)

یہ لوگوں کیلئے ایک بیان ہے اور پرہیز گاروں کے لئے ہدایت و نصیحت ہے۔  
نیز فرماتا ہے:

(یَا أَيُّهَا الَّذِينَ قَدْ جَاءُكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ، وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ نُورًا مُّبِينًا)

(۱)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔

نیز فرماتا ہے:

(وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتابٍ فَصَلَّيْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ، هُدًىٰ وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (۲)

ہم تمہارے پاس ایسی کتاب لائے جس کی ہم نے علم کے لحاظ سے تفصیل کی ہے اور یہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔

پھر فرماتا ہے:

(هَذَا بَصَائرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًىٰ وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (۳)

یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل اور ایمان لانے والوں کے لئے

.....

(۱)آل عمران: ۱۳۸

(۲) سورۃ النسا: ۴

(۳) سورہ الاعراف: (۵۲: ۴) سورہ الاعراف:

ہدایت و رحمت ہے۔ تو قرآن کتاب ثقافت ہے اور لوگوں کی زندگی میں نور ہے، لوگوں کے لئے دلائل، ہدایت اور نصیحت ہے اور ہمارے لئے صحیح ہے کہ ہم کسی بھی سرچشمہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی ذریعہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے صحیح نہیں ہے کہ ہم معصوم کے سرچشمہ کے علاوہ کسی اور سے ثقافت لیں کہ وہ اس ثقافت کو ہماری طرف وحی کے سرچشمہ سے نقل کرتا ہے کیونکہ ثقافت میں ذرہ برابر بھی خطا مشتقہ کا باعث ہے جبکہ علم ایسا نہیں ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرچشمہ ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اسے ہم تک پہنچاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد وحی کا سلسہ منقطع ہو گیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اہل بیت کے خلفاء کو، جو کہ قرآن کے ہم پلہ ہیں، ہمارے درمیان اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اہل بیت نے ثقافت و معرفت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہی سے لیا ہے اور معرفت و ثقافت، خدا کے حدود و احکام، حلال و حرام، سنن آداب و اخلاق اور اصول و فروع کی میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ہی سے پائی ہے اور ان چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں اپنے بعد نسل مسلمانوں کا مرجع اور قرآن کا ہم پلہ قریدیا ہے یہاں تک کہ خدا و ند عالم انہیں زمین اور روئے زمین کی تمام چیزوں کا وارث بنائیگا اور اس کا ثبوت حدیث تقلیل ہے جو فریقین کے نزدیک صحیح ہے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بعد تم قیامت تک قرآن اور اہل بیت سے رجوع کرنا اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان دونوں سے تمکن کرنے کو گمراہی و ضلالت سے امان قرار دیا ہے۔ (۱)

.....

(۱) مسلم نے اپنی صحیح میں فضائل صحابہ کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی ہے اور ترمذی نے اپنی صحیح میں ج ۲ ص ۸۰ .۸ ص ۱۳۱ مسند نے اپنی مسند میں متعدد مقامات پر اس حدیث کو نقل کیا ہے دارمی نے اپنی سنن کی ج ۲ ص ۴۳۱ پر کئی سندوں سے نقل کیا ہے حاکم نے متدرک میں اسے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے اور شیخین کی شرط پر اسے صحیح قرار دیا ہے ج ۳ ص ۱۰۹ سنن بیہقی ج ۲ ص ۱۴۸ ج ۷ ص ۳ ص ۸۹ اس نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اصحاب اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۲ وغیرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس حدیث کی سند بیان کر کے ہم اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ امر اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اس سلسلہ میں صحیح مسلم و ترمذی ہی کافی ہیں۔

نص حدیث یہ ہے:

"نی تارک فیکم الشَّقَلَیْنِ کتاب اللہ و عترتی أهل بیتی، و أئمَّهَا لَنْ یفترقا، حتیٰ یردا علیٰ الحوض، مَا نَتَمَسَّکْتُمْ بِهِ مَا لَنْ تَضَلُوا بَعْدَی".  
میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا، دوسرا میری عترت جو کہ میرے اہل بیت ہیں یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے اس

وقت تک میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

کتابوں میں اس حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے اس حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت سے موقعوں پر بیان فرمایا ہے انہیں میں سے غدیر خم بھی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں زید بن ارقم سے نقل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:

"مُثْلُ أَهْلِ بَيْتٍ مُثْلُ سَفِينَةٍ نُوحٌ مِنْ رَكَبِهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا عَرَقٌ"۔

میرے اہل بیت کی مثال کشی نوح کی سی ہے جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ڈوب گیا۔ (۱)

نیز فرمایا: "اہل بیت امان لامت من الاختلاف"۔

.....

(۱) اس کو حاکم نے مدرسہ رج ۲ ص ۳۴۳ پر نقل کیا ہے اور مسلم کی شرط پر اسے صحیح قرار دیا ہے کنز العمال رج ۶ ص ۲۱۶ مجمع الزوائد پیشی رج ۹ ص ۱۸ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم رج ۴ ص ۳۰۶ تاریخ بغداد خطیب: رج ۱۲ ص ۱۹ در منثور سیوطی سورہ بقرہ کی درج ذیل آیت: واذ قلنا ادخلوا هذہ القریۃ فلکو امنہا حیث شئتم، کشف الحقائق مناودی ص ۱۳۲ صواعق محرقة طبری فضائل الخمسہ فیروز آبادی رج ۲ ص ۷۱ تا ۷۲

میرے اہل بیت میری امت کے لئے اختلاف سے امان میں رہنے کا باعث ہیں۔ (۱)

اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کی صریح اور واضح دلالت اس بات پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت سے رجوع کرنا اور اپنے دین کے دستور و معارف انہیں سے لینا، اسی طرح خدا کے بیان کردہ حدود، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت اور حلال و حرام انہیں سے معلوم کرنا۔

فیروز آبادی نے اپنی گرانقدر کتاب ﴿فضائل الحمسة من الصحاح السنت﴾ میں ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، بحث طویل ہو جانے کے خوف سے ہم ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔

بیشک اہل بیت، مرکز رسالت، ملائکہ کی جائے آمد و رفت، وحی اتنے کی منزل، علم کے خزینہ دار، تاریکی میں چراغ، تقوے کی نشانیاں، ہدایت کے امام، انبیاء کے وارث اور دنیا والوں پر خدا کی جھٹ ہیں۔ زیارت جامعہ میں وارد ہوا ہے : وہ معروف خدا کے مرکز، حکمت خدا کے معادن، کتاب خدا کے حامل، اس کی جھٹ، اس کی صراط اور اس کا نور و برہان ہیں جیسا کہ زیارت جامعہ میں وارد ہوا ہے۔

اس صورت میں جو بھی ان سے جدا ہو گا وہ لامحالہ بھٹک جائیگا، خواہ وہ ان سے آگے بڑھ جائے یا ان سے پیچھے رہ جائے کیونکہ خدا کی صراط ایک ہے متعدد نہیں ہے، پھر جوان کے راستہ پر چلے گا وہ خدا کی طرف ہدایت پائے گا اور جو راہ میں ان سے اختلاف کرے گا وہ اس

(۱) متدرب صحیحین ج ۳ ص ۱۴۹ اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے بصواعق محرقة: ص ۱۱۱۱  
مجموع الزوابعہ پیغمبر: ج ۹ ص ۱۷۴ فیض القدیر مناوی ج ۶ ص ۲۹۷ کنز العمال متقی:

ج ۷ ص ۲۱۷ فیروز آبادی فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ۲ ص ۷۳ تا ۷۶ اس کو بہت سے طریقوں سے نقل کیا ہے۔

منزل تک نہیں پہنچ پائیگا جس کو خدا چاہتا ہے، اس بات کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے کئی موقعوں پر اعلان فرمایا ہے ان میں سے ہم نے ایک حدیث ثقیلین میں بیان کیا ہے۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک وابستہ رہو گے اس وقت تک گمراہ نہ ہو گے۔  
یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں بعض لوگ ہدایت پاجاتے ہیں اور بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، ہدایت یافتہ کو دو ہراثواب دیتا ہے اور خطا کرنے والے کو ایک ہی دیتا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔

نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا صحیح نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سلسلہ میں نص فرمائی ہے کہ میرے بعد جس چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو اس میں تم میرے اہل بیت سے رجوع کرنا۔ زیارت جامعہ میں آیا ہے۔

﴿۴۰﴾ فَالْأَغْبَرُ عَنْكُمْ مَا رَقَ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَا هُنَّ مُعْنَمُونَ وَالْمُقْسَرُ فَحَقْلُمْ زَاهِقٌ وَالْحَقْ مُعْكَمٌ وَفَيْكُمْ وَمِنْكُمْ وَالْكَيْمُ وَأَتْقَمُ مَعْدَنَهُ وَفُصْلُ الْخُطَابِ عِنْكُمْ، وَآيَاتُ اللَّهِ لِدَكُمْ، وَنُورٌ وَبَرَهَانٌ عِنْكُمْ ﴾۴۰﴾۔

آپ سے روگردانی کرنے والا دین سے خارج ہے اور آپ کا اتباع کرنے والا آپ سے ملحق ہے اور آپ کے حق میں کوتا ہی کرنے والا مٹ جانے والا ہے، حق آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان، آپ سے اور آپ کے لئے ہے، اور آپ حق کے معدن ہیں، فصل خطاب آپ کے پاس ہے،.. خدائی آیتیں آپ کے پاس ہیں، اور اس کا نور و برہان آپ کے پاس ہے۔

پس جو شخص خدا کی رضا، اس کا طریقہ، اس کی ہدایت اور اس کا راستہ چاہتا ہے وہ لا محالہ انہیں سے لے گا اور انہیں کے راستے پر چلے گا، کیونکہ اہل بیت خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور نہ غیر کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں اسی زیارت میں وارد ہوا ہے:

"إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ، وَ عَلَيْهِ تَدْلُونَ وَ بِهِ تَؤْمِنُونَ، وَ لَهُ تَسْلِمُونَ، وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، وَ إِلَى سَبِيلِهِ تَرْشَدُونَ، وَ بِقَوْلِهِ تَحْكَمُونَ، سَعْدٌ مَنْ وَالَا كَمْ، وَ هَلْكٌ مَنْ عَادَا كَمْ، وَ خَابٌ مَنْ جَحَدَ كَمْ، وَ ضَلَّلٌ مَنْ فَارَقَ كَمْ، وَ فَازٌ مَنْ تَمْسَكَ بِكَمْ، وَ امْنٌ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكَمْ، وَ سَلَمٌ مَنْ صَدَقَ كَمْ، وَ هَدِيٌّ مَنْ اعْتَصَمَ بِكَمْ۔"

آپ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور اس کے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اس کے قول کے موافق حکم دیتے ہیں، جس نے آپ سے محبت کی اس کی قسمت سنور گئی اور جس نے آپ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا، جس نے آپ کا انکار کیا وہ گھاٹے میں رہا اور جس نے آپ کو کچھ وڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے آپ سے تمسک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کے پاس پناہ لے لی وہ محفوظ رہا، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ صحیح و سالم رہا اور جس نے آپ کا دامن تھام لیا وہ ہدایت پا گیا۔

## طاعت و تسلیم

طاعت و تسلیم ولاعہ کا جوہر ہے۔

اگر بر محل طاعت ہوتی ہے تو اس کی بڑی قیمت ہے اور اگر اپنی جگہ نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، عصيان و سرکشی اور انکار کی بھی قیمت ہوتی ہے جب کہ ان کا تعلق شیطان سے ہے، لیکن اگر ان کا تعلق خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصہنا مسلمانوں کے صاحبان امر سے ہو تو یہ قیمت کی ضد قرار پائیں گے۔

چنانچہ سورہ زمر کی آیت ۱۷ میں ان دونوں قیمتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ الْمُبْشِرُونَ)

اور جو لوگ طاغوت کی پرستش کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور خدا سے لوگاتے ہیں ان کے لئے بشارت ہے، اور سورہ بخل میں ارشاد ہے:

(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّاغُوتَ) (۱)

تم خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔

طاعت و عبادت، انکار و اجتناب ایک چیز ہے اور خدا نے ہمیں اپنی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اولی الامر کی طاعت کا حکم دیا ہے:

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ)  
دوسری طرف ہمیں شیطان و طاغوت کی نافرمانی کرنے اور اس کے انکار کرنے کا حکم دیا ہے

(يَرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ) (۲)  
وہ لوگ طاغوت کو پنا حکم بنانا چاہتے ہیں جبکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔  
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد انہے اہل بیت ہی اولی الامر ہیں لہذا ان کی طاعت واجب

ہے اور جو وہ حکم دیں اس کو بجالا نافرمان ہے:

"فَهُمْ سَاسَةُ الْعِبَادِ وَأَرْكَانُ الْبَلَادِ وَهُمْ حَجَّاجُ اللَّهِ عَلَى هُنَّا دُنْيَا"

وہ بندوں کے سربراہ اور شہروں کے ارکان اور وہ دنیا والوں پر خدا کی جھیں ہیں۔

.....

(۱) انخل ۳۶:۰

(۲) النبای ۶۰:۰

## توحید میں طاعت

ہم ہر طریقہ سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ طاعت صرف خدا سے مخصوص ہے اور اس کے اذن و حکم کے بغیر کسی کی طاعت نہیں کی جاسکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واران کے اہل بیت کی طاعت درحقیقت خدا ہی کی طاعت ہے۔

"من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاكتم فقد عصى الله"

جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔

### تسلیم

طاعت کے مصدق میں سے ایک تسلیم ہے، یعنی مکمل طور پر خود کو سپرد کر دینا، کسی بات کا انکار نہ کرنا اور کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ اور تسلیم کا بلند ترین مرتبہ دلوں کا جھکنا ہے۔

"مسلم فیه معکم و قلبی لكم مسلم و راء لكم تبع" سر تسلیم  
کرنے والا ہوں میرا دل آپ کے لئے جہا ہوا ہے اور میری رائے آپ کی  
تابع ہے۔

"سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم"

میں اس سے صلح کروں گا جس سے آپ کی صلح ہے اور اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ کی جنگ ہوگی۔ صلح و جنگ تو لا و تبرا کے دورخ ہیں، صرف تو لا کرنا صاحبان امر کے سامنے تسلیم ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے دو پہلو ہیں اور وہ یہ ہیں: میں اس سے صلح کروں گا جس سے آپ کی صلح ہوگی اور اس کا تعلق صرف آپ ہی سے نہیں ہے اور اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ کی جنگ ہوگی۔

یہ جملہ تو لا اور تبرا کا بہت ہی نازک و دقيق مفہوم ہے۔

"سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم"

ولاء و برائت کا تین جملہ صلح اور جنگ کے بارے میں معاشرہ کے سامنے ایک نیا سیاسی نقشہ پیش کرتا ہے، حرب یعنی جدائی اور بیزاری، اس کو جنگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ افتراء و بیزاری اور قتال میں فرق ہے۔

کیونکہ ہمارا اجتماعی لگاؤ سیاسی و مادی مصلحتوں کی بنا پر وجود میں نہیں آ سکتا وہ تو بس تولا و تبراء سے منظم ہو سکتا ہے، کبھی ہم اپنے خاندان اور ہمسایوں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور ان لوگوں سے اتصال و روابط رکھتے ہیں جو کہ زمان و مکان کے اعتبار سے بہت دور ہیں۔

زیارت عاشورہ میں آیا ہے:

"نی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ول لمن والا کم و  
عدول میں عادا کم"

میں اس سے صلح کروں گا جس سے آپ صلح کریں گے اور اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ کی جنگ ہوگی میں اس سے دوستی کروں گا جو آپ کا دوست ہوگا اور اس سے دشمنی کروں گا جو آپ کا دشمن ہوگا۔

عمار کی سند سے علی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا یہ قول نقل ہوا ہے:

"نَهْ مُنْيٰ وَأَنَا مُنْهَرٌ بِهِ حَرْبٍ وَسَلِيمٌ سَلِيمٌ وَسَلِيمٌ سَلَّمَ اللَّهُ"

وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس کی جنگ میری جنگ ہے، اس کی صلح میری صلح ہے اور میری صلح خدا کی صلح ہے۔

ترمذی نے اپنی صحیح میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے فرمایا:

"أَنَا حَارِبُ لِمَنْ حَارَبَتُمْ وَ سَلَّمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ"۔ (۱)

میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تمہاری جنگ ہوگی اور اس سے صلح کروں گا جس سے تمہاری صلح ہوگی۔

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:

"أَنَا سَلَّمٌ لِمَنْ سَالَمْكُمْ وَ حَارِبُ لِمَنْ حَارَبَتُمْ"۔ (۲)

میں اس سے صلح کروں گا جس سے تمہاری صلح ہوگی اور میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تمہاری جنگ ہوگی۔

اسی کو حاکم نے مستدرک الصحیحین میں اور ابن اثیر جزری نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے۔ (۳)  
متقی نے کنز العمال میں (۴) نقل کیا ہے۔

سیوطی نے درمنثور میں آیہ تطہیر - سورہ احزاب - کی تفسیر میں اور پیغمبیری نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے۔ (۵)

یہ جنگ و صلح، یا قطع تعلقی اور رسم و راہ باقی رکھنے میں اتحاد کے معنی ہیں کیونکہ اہل بیت کی جنگ در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی جنگ ہے اور ان کی صلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی صلح ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی جنگ و صلح خدا کی جنگ اور صلح ہے اسی طرح تو لا اور ترا کے تمام مفردات توحید کے تحت آتے ہیں۔

.....

- (۱) صحیح ترمذی: کتاب المناقب باب ۱۶ فضل فاطمہ بنت محمد: ج ۲ ص ۳۱۹ طبع ۱۲۹۲
- (۲) سنن ابن ماجہ مقدمہ باب ۱۱ ص ۱۴۵
- (۳) متدرک حاکم نیشاپوری: ج ۱۳ ص ۱۴۹ کتاب معرفۃ الصحابة مبغض اہل الیت یدخل النار ولو صام وصلی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا جہنم میں جائے گا خواہ اس نے روزہ رکھا ہو اور نماز پڑھی ہو۔
- (۴) کنز العمال: ج ۶ ص ۲۱۶
- (۵) مجمع الزوائد: ج ۹ ص ۱۶۹ مذکورہ حوالے فضائل الحمسة من الصحاح الستة فیروز آبادی: ج ۱ ص ۳۹۹ تا ۳۹۶ سے نقل کئے گئے ہیں۔

## مدد اور انتقام

ولاء بہت سخت مسئلہ ہے، صلح میں، ناچاقی میں، کشاکش و تگنی میں ساتھ رہنا بہت دشوار ہے اگر صرف کشاکش میں ہوتا تو ولاء کا مسئلہ آسان ہو جاتا اور پھر اس سخت ولاء کا اقتضا مدد کرنا اور انتقام لینا بھی ہے اور اگر مدد نہ کی جائے تو ولاء ہی ختم ہو جائے گی خداوند عالم کا ارشاد ہے:

(وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَيَاٌ بَعْضٍ) (۲)

اور جن لوگوں نے پناہ دی اور نصرت کی وہ ایک دوسرے کے سر پرست و ولی ہیں۔

اسی طرح ولاء ایک حق ہے جو خون خواہی اور انتقام سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بیشک جو ولاء اپنے حامل کو جنگ قتل، قطع تعلقی، روابط اور نفع و ضرر پر نہ ابھارے درحقیقت وہ ولاء نہیں ہے بلکہ وہ ولاء کی صورت ہے۔

زیارت عاشورہ میں ہم یہ تمذا کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پاک خونوں کا انتقام لینے والوں میں قرار دے جو کہ ظلم و ستم سے کربلا میں بہائے گئے۔

.....

(۲) انفال: ۷۲۔

"فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرِزَّقَنِي طَلْبَ ثَارِكٍ  
معَ امَامٍ مُنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ"۔

پس میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آپ کے مرتبہ کو بلند کیا اور آپ کے ذریعہ مجھے عزت بخشی کہ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحہ میں امام منصور کے ساتھ آپ کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دے۔

زیارت عاشورہ ہی میں ہے:

"وَاسْأَلُهُ أَن يَبْلِغَنِي الْمَقَامُ الْمُحْمودُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَن يَرْزُقَنِي طَلْبُ ثَارِكُمْ مَعَ مَامِهِ حَدِيَ ظَاهِرٌ نَاطِقٌ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ"

میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس مقام محمود تک پہنچا دے جو خدا کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ ہے اور مجھے آپ میں سے ہادی، ظاہر اور حق کے ساتھ بولنے والے امام کے ساتھ انتقام لینے والا قرار دے۔

اور زیارت جامعہ میں مکمل طور پر مدد کرنے کی طاقت کا اعلان کرتے ہیں، ونصرتی لکم معذّۃ، اور میری مدد آپ کے لئے تیار و حاضر ہے۔

### محبت و مودت

یہ ولاء اہل بیت کی بنیاد ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے جو ہر زمانہ میں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔

(قُلْ لَا إِسْلَامُ كُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِلَّا الْمُؤْدَّةٌ فِي الْقُرْبَى) (۱)

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے کہہتے تھے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا  
سوائے اس کے کہ تم میرے قرابینداروں سے محبت کرو۔

قرابینداروں سے مراد، بلا اختلاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت ہی ہیں۔  
اس واجب محبت کی طرف زیارت جامعہ میں وار دص بھی اشارہ کر رہی ہے:

**"ولکم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة"**

آپ کے لئے واجب محبت اور آپ کے لئے بلند درجات ہیں۔

طاعت اور محبت ہی ولاء کی روح یا اور اس کا جوہر ہیں، امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا  
کیا محبت دین کا جزء ہے؟ امام نے فرمایا: کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے، اگر انسان پتھر  
سے بھی محبت کرے گا تو خدا اس کو اسی کے ساتھ محسوس کرے گا۔

جبیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ محبت کا تعلق مقولہ توحید سے ہے۔

پس جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کے  
اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے اہل بیت سے محبت  
کرتا ہے وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے۔

پہلے جملہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے:

.....

(۱) سورہ شوریٰ آیت ۲۳ دلائل الصدق ج ۲ ص ۱۲۶ تا ۱۲۷ طبع قاهرہ میں ہے کہ یہ آیت  
اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، نیز الغدیر ج ۲ ص ۳۰۶ تا ۳۱۰ اور ج ۳ ص

کی تہران۔

"أَحْبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَاحْبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي"

خدا کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

دوسرے جملہ کے بارے میں زیارت جامعہ میں وارد ہوا ہے:

"مَنْ أَحْبَكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ" (۱)

جس نے آپ سے محبت کی درحقیقت اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ سے عداوت رکھی اس نے خدا سے عداوت کی۔

اسی طرح جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ مومنوں سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور جو مومنین سے محبت کرتا ہے وہ لا محالہ خدا سے محبت کرتا ہے۔

خدا کی محبت اس بات کا باعث ہوتی ہے کہ نفسِ انسان میں محبت کے درجات کو پہنچ دے تو یہ کر دے، ضروری ہے کہ انسان کی حیات میں یہی محبت حاکم رہے تاکہ انسان خدا کے علاوہ اور راہ خدا کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرے۔

پہلے نکتہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے:

(قُلْ نَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ أَحَبَّ لَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادِ فِ

سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهِيءُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (۲)

اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے تمہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ

.....

(۱) یقہرہ زیارت جامعہ میں دوبار وارد ہوا ہے۔

(۲) توبہ: ۲۴:-

سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ خدا کا حکم آجائے اور خدا بذکاروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّهُ (۱)

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا سے محبت میں شدید ہیں۔

.....

(۱) یقہرہ ۱۶۵:-

اور دعا میں وارد ہوا ہے:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا يُشَاءُ لِكَ وَاجْعَلْ خُشُبَتَكَ أَخْوَفَ  
الْأَشْيَاءِ عِنْكَ وَاقْطِعْ عَنْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ"

اے اللہ! اپنی محبت کو میرے نزدیک تمام اشیاء کی محبت سے زیادہ کر دے اور اپنی خشیت کو میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ خوفناک قرار دے اور اپنی ملاقات کے شوق کے ذریعہ دنیا کی حاجتوں کو مجھ سے برطرف کر دے۔

دوسرے نکتے کے بارے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے اہل بیت سے وارد ہونے والی بہت سی حدیثوں میں نص وارد ہوئی ہے۔ ان ہی میں سے وہ حدیث بھی ہے جس کو امام محمد باقر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کیا ہے:

"أَلَا وَاحِبُّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضُ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى فِي اللَّهِ، وَمِنْعَفٌ فِي اللَّهِ، فَهُوَ مِنْ أَصْفَيَاءِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اللَّهِ، أَلَا وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ذَا تَحَابَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَصَافَّيَا فِي اللَّهِ كَانَا كَالْجَسَدِ ذَا اشْتَكَى أَحَدُهُمَا مِنْ جَسَدِهِ مَوْضِعًا، وَجَدَ الْآخَرُ أَلَمَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ"

دیکھو! جس نے خدا کے لئے محبت کی اور جس نے خدا کے لئے دشمنی کی اور خدا کے لئے دیا اور خدا کے لئے منع کیا تو وہ خدا کے برگزیدہ منتخب بندوں میں سے ہے جو خدا کے نزدیک مومن ہیں اور دیکھو جب دو مومن خدا کے لئے محبت کرتے ہیں اور خدا کے لئے ایک دوسرے سے خلوص رکھتے ہیں تو وہ دونوں ایک بدن کی مانند ہو جاتے ہیں اگر دونوں میں سے کسی کے بدن میں کہیں تکلیف اور درد ہوتا ہے تو دوسرا اپنے بدن میں اسی جگہ درمحسوس کرتا ہے۔

محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ اور ہلکی پچھلکی محبت اور دوسری سوچ و سمجھ کر محبت کرنا یہ خدا کی محبت کے تحت ہوتی ہے، پہلی محبت کا تاریخ میں کوئی وقار نہیں اور نہ ہی انسان کی زندگی اور اس کی سرنوشت میں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک قسم کی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہاں وہ محبت جو خدا کی محبت کے تحت ہوتی ہے یہ وہی محبت ہے جس کو مودت اہل بیت کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں ان کی محبت دوسری ہی چیز ہے وہ سادہ محبت

نہیں ہے، یہ ایسی محبت نہیں ہے جس کا انسان اپنی زندگی میں تجربہ کرتا ہے یہ وہ محبت ہے جو خدا کی محبت کے تحت ہوتی ہے، اس محبت کی عالمیں اور خصلتیں مشہور اور نمایاں ہیں۔

اس محبت کی پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ تبریز سے جدا نہیں ہوتی ہے ہر محبت کے ساتھ کچھ عداوت و بعض بھی ہوتا ہے اور ہر خوشی کے ساتھ ناراضگی و غضب بھی ہوتا ہے اور ہر تولا کے ساتھ تبریز ہوتا ہے اور جو محبت عداوت و بعض کے ساتھ جمع ہوتی ہے وہ سادہ اور بلکل پچھلی محبت ہے۔

ایک شخص امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے مخالف و مدقابل سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس صورت میں تم کانے ہو (تمہیں آدھا نظر آتا ہے) یا تم اندر ہو یا دیکھتے ہو۔ زیارت میں وارد ہوا ہے

"موالِ لكم و لا ولیائكم و مبغض لاعدائهم و معادلهم"

میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کے دوستوں کا دوست ہوں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں اور ان کا دشمن ہوں۔

اس محبت کی دوسری خصلت: یہ محبت لوگوں کی محبت کے تحت ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے پہلی محبت خدا کی محبت کے تحت ہوتی ہے کیونکہ راہ خدا میں محبت کرنے کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس میں خود اہل بیت سے بھی محبت ہوتی ہے اور ان کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔

"موالِ لكم و لا ولیائكم"

یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی سے خدا کے لئے محبت کرے اور اس سے محبت نہ کرے کہ جس سے محبوب خدا کے لئے محبت کرتا ہے۔

اس محبت کی تیسری خصلت: یہ جنگ صلح کے موقع پر عملی صورت اختیار کر لیتی ہے، "سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم" چوچی خصلت: محبت خدا کے لئے ہوتی ہے اور عداوت بھی خدا کے لئے ہوتی ہے، یہ دونوں اجتماعی لگاؤ کا کامل نقشہ کھینچتے ہیں۔

### اثبات و ابطال

اہل بیت سے محبت کرنے میں یہ واجب ہے کہ ہم ان کی ثقافت اور ان کے معارف سے دفاع کریں، جس کا انہوں نے اثبات کیا ہے اس کا ہمیں اثبات کرنا چاہئے اور جس کا انہوں نے ابطال کیا ہے ہمیں اس کا ابطال کرنا چاہئے کیونکہ تاریخ اہل بیت میں ثقافتی اور علمی روایتوں پر دشمنوں نے ہر چیز سے زیادہ حملے کئے ہیں چنانچہ فقہاء اہل بیت اور ان کے مکتب کے علماء نے ان کے معارف و ثقافت، ان کی فقر اور ان کی اسلام شناسی سے دفاع کیا ہے۔

اس دائرہ میں اثبات و ابطال بھی ہے جو کہ جہاد و جنگ اور صلح و قطع تعلقی کے میدان میں ہوتا ہے، زیارت جامعہ میں آیا ہے:

"سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، حقق لہا حققتہم، مبطل ما أبطلتم"۔

جس سے آپ کی صلح ہو گی میں اس سے صلح کروں گا اور جس سے آپ کی قطع تعلقی ہو گی میرا

اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو آپ نے ثابت کیا ہے میں اسی کو ثابت کروں گا اور جس کو آپ نے باطل قرار دیا ہے میں اس کو باطل قرار دونگا۔

### میراث و انتظار

کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں ولاء نہ رہی ہوا اور یہ مستقبل میں بھی رہے گی، تاریخ کے آغاز سے، حضرت آدم اور حضرت نوح سے لے کر، تاریخ کی انتہائی تک ولاء رہے گی یہاں تک کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و الناصاف سے پر کریں گے اور زمین کو ظالموں کے تسلط سے آزاد کرالیں گے تاکہ خدا کا وہ وعدہ پورا ہو جائے جو اس نے توریت وزبور میں کیا ہے۔

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِي كِرِّأْنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِهِ الصَّالِحُونَ) (۱)

.....  
(۱) انبیاء: ۱۰۵:

ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین خدا کی ہے، ہم اس کو اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے۔

یہ توریت وزبور میں خدا کا وعدہ ہے اور تاریخ میں ہے کہ اہل بیت نے انبیاء اور صالحین سے میراث پائی ہے، ان سے نمازو ذکر، زکوٰۃ، رحیم اور خدا کی طرف بلا نے کی میراث پائی ہے۔

زیارت امام حسین (زیارت وارث) میں اس علمی و ثقافتی اور جہادی میراث کو امام حسین سے مخصوص کیا گیا ہے جو کہ آپ کو انبیاء سے ملی ہے، یہ زیارت تہذیبی اور علمی مفہوم کی حامل ہے۔

"السلام عليك يا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام عليك يا وارث نوح  
نب اللہ، السلام عليك يا وارث براہیم خلیل اللہ، السلام عليك يا  
وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام عليك يا وارث عیسیٰ روح اللہ"

اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نبی خدا نوح کے وارث آپ پر سلام، اے خلیلِ خدا  
ابراهیم کے وارث آپ پر سلام، اے کلیمِ خدا موسیٰ کے وارث آپ پر سلام اے روحِ خدا  
عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام  
یہ میراث طول تاریخ میں آدم و نوح سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خدا اور علی مرتضیٰ تک  
جاری رہی۔

امام حسین نے کربلا میں روز عاشورہ اس علمی، ثقافتی، تہذیبی اور جہادی میراث کو مجسم کر دیا، ولایت کی تاریخ بہت عمیق ہے، تاریخ میں اس کی جڑیں گھری ہیں، اہل بیت نے انبیاء سے نیک و طویل راستہ میراث میں پایا ہے اور ہم نے ان سے ان کی میراث پائی ہے۔  
ہم نے ان سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا، جہاد، خدا کی طرف بلانا، اور ان سے ذکر و اخلاص اور توحید کے تمام اقدار کی میراث پائی ہے، چنانچہ ہم خدا کے اس قول (خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصْلَاعُوا الصَّلَاةَ) پس ان کے بعد وہ لوگ

جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے قائم کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، بالکل اس طرح جیسا کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے حفاظت کی ہے، انشاء اللہ، ہم ان لوگوں میں قرار پائیں جو خدا کے اس قول پر عمل کرتے ہیں: (وَأَمْرَأَهُكَّ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَرِّبْ عَلَيْهَا) اپنے خاندان والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی ادا کرتے رہو۔ چنانچہ ہم اپنے معاشرہ اور اپنے خاندان میں خدا کی اس عظیم میراث کی حفاظت کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے بزرگوں سے نسل بعد نسل میراث میں پایا ہے۔

یہ ہے طول تاریخ میں ولاء کا سلسلہ اور زمانہ آئندہ میں ولایت کا سلسلہ ہے، جس کے لئے ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے امام مهدی کے ظہور کے منتظر ہیں اور ان کے ظہور کے ساتھ کشاںش و کامیابی کے منتظر ہیں اور اس عالمی انقلاب کے منتظر ہیں جس کی خدائی نے ہمیں اپنی کتاب میں اور اس سے پہلے توریت و زبور میں خبر دی ہے۔

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَرِّ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ  
الصَّالِحُونَ)

ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں کی میراث صالح بندے پائیں گے۔ انتظار کے معنی منفی و سلبی نہیں ہیں جیسا کہ لوگ چاند و سورج گھن لگنے کا انتظار کرتے ہیں بلکہ انتظار کے معنی ثابت ہیں جیسا کہ انتظار سے متعلق حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ سیاسی، شفاقتی اور عملی تیاری تاکہ ظہور مهدی اور روئے ز میں پر آنے والے عظیم انقلاب کے لئے راہ ہموار کریں۔

انتظار کے معنی اس مثبت مفہوم کے لحاظ سے، نیک باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، خدا کی طرف بلانا، ظالموں سے جہاد کرنا، کلمۃ اللہ کو بلند کرنا اور روئے زمین پر خدائی تہذیب و ثقافت کو نشر کرنا، نماز قائم کرنا اور بہت سی چیزیں ہیں جو کائنات میں آنے والے انقلاب کی راہ ہموار کرتی ہیں۔

یہ ہے ولاء کا مستقبل اسی کی طرف زیارت جامعہ میں اشارہ کیا گیا ہے، منتظر "الأمر کم مر تقب لدولتكمحتی یحیی اللہ تعالیٰ دینه بکم، ویرد کم فی أيامه، ویظہر کم لعدله، ویمکن کم فی أرضه"۔

آپ کے امر کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کی طرف آنکھ لگائے ہوئے ہوں یہاں تک کہ خدا آپ کے ذریعہ اپنے دین کو زندہ کر دے اور آپ کو اپنے زمانہ میں واپس لائے اور اپنے عدل کے لئے آپ کو غالب کر دے اور اپنی زمین پر آپ کو قدرت عطا کر دے۔

آخری لفظ سورہ قصص کی ابتدائی آیتوں کی طرف اشارہ ہے:

(وَ نُرِيدُ أَنْ تُمْنَّى عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ)

ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے اور انہیں امام بنا سکیں اور انہیں وارث قرار دیں اور زمین پر انہیں قدرت عطا کر دیں۔

اور یہ انتظار، عمل، جد و جہد، صبر و مقاومت، تعمیر، دین خدا کے لئے زمین ہموار کرنے کی کوشش، روئے زمین پر حکومت خدا کے قائم کرنے کے لئے لوگوں کو حاضر کرنے کی صورت

میں ظاہر ہوتا ہے نیز:

لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں، نیک باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں، باطل سے جنگ کریں اور کفر کے سراغناوں سے جہاد کریں۔

اب ہم آپ کے سامنے دعائے ندبہ کے کچھ جملے پیش کرتے ہیں، جس کو پڑھ کر مومنین اپنے امام کے فرقاً اور ان کی کشاٹش کے انتظار میں آہ وزاری کرتے ہیں۔

۱۰ أَيْنَ بِقِيَةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعَتَرَةِ الْهَادِيَةِ؟

کہاں ہے وہ بقیۃ اللہ جس سے ہدایت کرنے والی عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی۔

۱۱ أَيْنَ الْمَعْدُلُ لِقَطْعِ دَابِرِ الظُّلْمَةِ؟

کہاں ہے وہ جس کو ظلم کی جڑ کاٹنے کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔

۱۲ أَيْنَ الْمَنْتَظَرُ لِاقْامَةِ الْإِمَامَةِ وَالْعَوْجِ؟ أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِازْالَةِ الْجُورِ وَالْعُدُوانِ؟

کہاں ہے وہ جس کا انتظار کجی نکالنے اور انحراف کو درست کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ جس سے ظلم و جور کو دفع کرنے کی امیدیں کی جا رہی ہیں۔

۱۳ أَيْنَ الدِّرْخُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنْنِ؟

کہاں ہے وہ جس کو فرائض و سنن کی تجدید کے لئے ذخیرہ کیا گیا ہے۔

۱۴ أَيْنَ الْمُتَحَذِّلُ (۱) لِعَادَةِ الْمُلْمَةِ وَالشَّرِيعَةِ؟

کہاں ہے وہ جس کو مذہب و شریعت کو لوٹانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

.....

(۱) اکثر نسخوں میں (أَيْنَ الْمُتَقِّبِرُ) آیا ہے۔

**أَيْنَ الْمُؤْمَلُ لِأَحْيَاءِ الْكِتَابِ وَحَدَّوْدَةٍ؟**

کہاں ہے وہ کہ جس سے کتاب خدا اور اس کے حدود کو زندہ کرنے کی امید ہے۔

**أَيْنَ هُجَىٰ مَعَالِمُ الدِّينِ وَأَهْلِهِ؟**

کہاں ہے دین اور دینداروں کو زندگی دینے والا۔

**أَيْنَ قَاصِمُ شَوَّكَةِ الْمُعْتَدِلِينَ؟**

کہاں ہے ستمگاروں کی کمر توڑنے والا۔

**أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشَّرِكِ وَالنُّفَاقِ؟**

کہاں ہے شرک و نفاق کی بنیادیں اکھاڑنے والا۔

**أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفَسُوقِ وَالْعَصَيَانِ وَالْطَّغْيَانِ؟**

کہاں ہے فاسق و عاصی اور سرکشوں کو ہلاک کرنے والا۔

**أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكَذِبِ وَالْفَتَرَاءِ؟**

کہاں ہے جھوٹ و افتراء کی رسیوں کو کاٹنے والا۔

**أَيْنَ مُبِيدُ الْعَتَّاَةِ وَالْمَرَدَةِ، وَ مُسْتَأْصلُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالْتَّضليلِ وَ**

**اللَّحَادِ؟**

کہاں ہے اختلاف کی شاخیں تراشنے والا، کہاں ہے انحراف و خواہشات کے آثار کو مٹانے والا، کہاں ہے سرکشوں اور باغیوں کو ہلاک کرنے والا، کہاں ہے عناد وال خاد و گمراہی کے سر غناوں کو جڑ سے اکھاڑنے والا۔

**أين معز الأولياء ومنذل الأعداء؟**  
کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا۔

**أين جامع الكلمة على التقوى؟**  
کہاں ہے سب کو تقوے پر جمع کرنے والا۔

**أين باب الله الذي منه يؤتي؟**  
کہاں ہے وہ باب خدا کہ جس سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔

**أين صاحب يوم الفتح و ناشر راية الهدى؟**  
کہاں ہے چیرہ خدا کہ جس کی طرف دوست رخ کرتے ہیں، کہاں ہے وہ سبب جو زمین و آسمان کا اتصال قائم کرتا ہے، کہاں ہے وہ جو روز فتح کا مالک اور پرچم ہدایت کا لہرانے والا۔

**أين مؤلف شامل الصلاح والرضا؟**  
کہاں ہے وہ جو نیکی و رضا کے منتشر اجزا کو جمع کرنے والا ہے۔

**أين الطالب بذحول الأنبياء و أبناء الأنبياء؟**  
کہاں ہے انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا۔

**أين الطالب بدم المقتول بكر بلا؟**

کہاں ہے شہید کر بلا کے خون کا مطالبہ کرنے والا۔

**أَيْنَ الْمُنْصُورُ عَلَىٰ مِنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ وَافْتَرَىٰ؟**

کہاں ہے وہ کہ جس کی ہر ظالم اور افتراء پر داز کے مقابلہ میں مدد کی جائے گی۔

**أَيْنَ الْمُضْطَرُ الَّذِي يَجَابُ أَذَادِعَى؟**

کہاں ہے وہ مضطرب کہ جس کی دعا مستجاب ہے خواہ جب بھی کرے۔

**أَيْنَ صَدْرُ الْخَلَائِقِ ذُو الْبَرَّ وَالْتَّقْوَىٰ؟**

کہاں ہے ساری مخلوقات کا سربراہ، صاحب صلاح و تقویٰ۔

**أَيْنَ إِبْنُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ وَابْنُ عَلَّ الْمُرْتَضَىٰ وَابْنُ خَدِيجَةِ الْغَرَاءِ وَابْنُ فَاطِمَةِ الْكَبِيرَىٰ؟**

کہاں ہے فرزند رسول مصطفیٰ، پسر علی مرتضیٰ، نور نظر خدیجہ اور لخت جگر فاطمہ۔ (۱)

انتظار، آہ وزاری، نالہ و شیون اور امر بالمعروف، نبی عن المترک، اور امام مہدی کے ظہور و قیام اور آپ کی کشاٹش کے لئے زمین ہموار کرنے کے لئے ظالموں سے جہاد کی نہایت کوشش کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

یہ میں اور آہ وزاری مومنین کے دلوں کو کام و کوشش، قیام و انقلاب، ثابت قدی و مقاومت، محاذ لینے، جہاد کرنے، اسلام کی طرف بلانے، بنانے بگاڑنے اور امام زمانہ کے ظہور اور آپ کی آفاقی حکومت کے قیام و تشکیل کے لئے زمین ہموار کرتی ہے کہ جس کا خدا نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے:

(وَلَقَدْ كَنَبَنَ فِي الرَّأْيِ بُوْرِ مِنْ بَعْدِ الدَّكْرِ)

اس میں شک نہیں ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس نسل کے گزر جانے کے بعد ہوگا جو آپ کے ظہور و قیام کے لئے زمین ہموار کرے گی کیونکہ اس سلسلہ میں اسلامی نصوص تو اتر کی حد تک پہنچی ہوتی ہیں، یہی وہ نسل ہے کہ امام مہدی کے ظہور و قیام کے لئے زمین ہموار کرے گی، اس صورت میں انتظار کے یہ معنی ہوں گے کہ امر بالمعروف، کوشش و عمل میں جلدی اور تیزی کے ساتھ زمین ہموار کی جائے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ولاء میراث اور انتظار ہی ہے، میراث ہمیں انبیاء وصالحین کے راستہ پر چلنے کی ترغیب کرتی ہے اور انتظار ہمیں امید کی اس درخشاں کرن کو کھولنے پر ابھارتی ہے کہ جس کو خدا ہمارے لئے مستقبل میں کھولے گا۔

لیکن اس امید کے لئے واجب ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش و جانشناختی اور تگ و دو سے متصل ہو، یہاں تک کہ خدا کے اذن سے یہ وعدہ پورا ہو جائے، انتظار و امید علامات کا نام نہیں ہے۔

.....  
(۱) دعائے ندب

## زیارت

### زیارت ولاء کا مظہر اور اس کے آثار میں سے ہے:

زیارت ایک واضح حالت ہے جو ہماری اہل بیت سے محبت کے لئے مشہور ہے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، ولاء کے دائرة میں زیارت کی ایک تہذیب و ثقافت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ نصوص ہیں جن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ولاء کے ثقافتی افکار و مفہوم ہم سے معمور ہیں اور زندگی میں اس کا ایک اثر ہے۔

زیارت کی غرض، تاریخ میں صالح و ہدایت سے مالا مال راستے کے ذریعہ عضوی و ثقافتی استحکام ہے۔ ہم اس کاروائی کا جز ہیں جو توحید، اخلاص، تقویٰ، نماز، جہاد، زکوٰۃ، امر بالمعروف، ذکر، شکر اور صبر و قوت کے اقدار سے مالا مال ہے۔ ہم اس مبارک راستے یا قافلہ کا جز لا ایجرا ہیں کہ جس کا سلسلہ تاریخ میں اہل بیت سے لیکر انبیاء کی تحریک تک پھیلا ہوا ہے، آدم سے نوح و ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ تک ہے، ہم اس راستے کا جز ہیں اور اس تاریخی جنگ و کشمکش کا جز ہیں جو اس کے راستے کے ہر مرحلہ میں اسلام و جاہلیت اور توحید و شکر کے درمیان ہوتی رہی ہیں، ہم اس شجر طیبہ کا جز ہیں کہ جس کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں۔

ہم اس شجر کی شاخیں ہیں، اس درخت سے ہمیں نسبت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا چاہئے:

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، كَشَجَرَةً طَيِّبَةً، أَصْلُهَا تَابِتٌ وَ فَرِعُهَا فِي السَّمَاءِ)

کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے پاک کلمہ کی مثال پاک درخت سے دی ہے، اس کی جڑ ثابت و محکم ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔

اس درخت سے ہمارا رشتہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں اپنے خمیر و وجدان اور عقل و دل میں غور کرنا چاہئے اور جب ہمیں اس شجر طیبہ اور تاریخ کے اس مبارک خاندان سے نسبت کا گہرا احساس ہوگا تو اسی تناسب سے چیلنج کے مقابلہ میں ہماری قوت، صبر و صلاحت زیادہ ہو گی اور خوفناک راستوں اور لغزشگاہوں جو راہ زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے خلاف ہمارے اندر ربات و استقلال میں اضافہ ہوتا ہے۔

### زیارت اس استحکام کے اہم عامل ہے

زیارت سے ایک قوی پر شفقت فضا پیدا ہوتی ہے جس میں اس مبارک خاندان اور تاریخ کے اس صالح راستے سے تہذیبی، ثقافتی اور تحرک کی نسبت کی تاکید کی گئی ہے۔

رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمہ زہرا، حسن و حسین، تمام اہل بیت، انبیاء، اولیاء خدا اور صالح مونین کے لئے جو زیارتیں اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں وہ اس تہذیبی اور ثقافتی میراث سے معمور ہیں اور اس راستے پر چلنے اور اس مبارک خاندان سے نسبت اور ان کے دشمنوں اور ان سے چنگ کرنے والوں سے اعلان برأت کے مفہوم سے بھری ہوئی ہیں۔

میں نے اپنی کتاب الدعا عند اہل البیت کی آخری فصل میں زیارت کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی ہے، لہذا ہم نے جو بات وہاں بیان کی ہے اسی پر اکتفاء کرتے ہیں یہاں اس کی تکرار نہیں کریں گے۔

## مکتب اہل بیت سے منسوب ہونے کے طریقے

اب ہم اس بحث کے آخری نقطہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ ولاء و برائت اور اس کے حصول کے طریقوں کی بلندی ہے۔

بیشک ولاء و میراث۔ تویی و قبری۔ انسان کے لئے معراج ہیں، تویی و قبری کے ذریعہ انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔

تو لا و قبری کے بغیر انسان خدا کا تقریب اور اس کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔

ذیل میں ہم تویی و قبری کی بلندی کے بارے میں ائمہ اہل بیت سے وارد ہونے والی بعض حدیثوں کا ذکر کر رہے ہیں۔

## دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ

عبداللہ بن ولید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مردان کے زمانہ میں ہم امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دریافت کیا: آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا: اہل کوفہ ہیں، آپ نے فرمایا: اہل کوفہ ہمیں سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں خصوصاً یہ گروہ، بیشک خدا نے تمہاری اس چیز کی طرف راہنمائی کی ہے جس سے لوگ جاہل ہیں، تم نے ہم سے دوستی کی جبکہ دوسروں نے ہم سے عداوت کی، تم نے ہمارا اتباع کیا اور لوگوں نے ہماری

مخالفت کی، تم نے ہماری تصدیق کی، لوگوں نے ہمیں جھٹلا یا، خدا تمہیں اس طرح زندہ رکھے جس طرح ہمیں زندہ رکھتا ہے اور اس طرح موت دے جس طرح ہمیں موت دیتا ہے، میں شاہد ہوں میرے باپ کہتے تھے۔ تم میں سے کسی شخص اور اس چیز کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے یا جس پر غبظہ کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اس کا نفس یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ فرمایا: خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا:

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً"

و نحن ذریۃ رسول اللہ۔ (۱)

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے بیویاں اور ذریت قرار دی تھی اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذریت ہیں۔

زیارت معروفہ عاشورہ میں ہے:

"وَاحِينَا هَبِيَا هَمْدًا وَآلَ هَمْدًا وَامْتَنَا هَمَاتَ هَمْدًا وَآلَ هَمْدًا"

ہمیں محمد وآل محمد کی حیات عطا فرماؤ ہمیں محمد وآل محمد کی موت دے۔

**خدا ان پر کرم کرتا ہے**

رسول اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا:

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۲۵ ص ۲۰-۳۴ ح

"يقول الله عز و جل لشيعتي و شيعة أهل بيته يوم القيمة هلم يا عبادى لي لأنشر عليكم كرامتى، فقد أوذيتكم فى الدنيا".  
روز قیامت خداوند عالم میرے اور میرے اہل بیت کے شیعوں سے فرمائیگا، میرے بندو! میرے پاس جلدی آوتا کہ میں تمہیں اپنے کرم سے سرفراز کروں، یقیناً تمہیں دنیا میں اذیت دی گئی ہے۔ (۱)

**وَهُمْ سَرِّ اُولَئِكَ مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَهْتَهُمْ**  
امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے والد فرمایا کرتے تھے:  
"ان شیعتنا آخذون بجزتنا، و نحن آخذون بجزة نبینا، و نبینا آخذ  
بجزة الله". (۲)

ہمارے شیعوں نے ہمارا دامن، ہم نے رسول کا دامن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و نے خدا کا  
دامن تھام رکھا ہے، مجلسی لکھتے ہیں:

"اخذت بجز الرحمان"  
کامطلب یہ ہے کہ میں خدا سے وابستہ ہوں۔ (۳)  
امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:  
"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَخْذَ رَسُولَ اللَّهِ بِحِجْزَةِ رَبِّهِ (اعتصم به) وَأَخْذَ عَلَ

بحجزۃ رسول اللہ، وَأَخْذُنَا بِحِجْزَةِ عَلٰٰ، وَأَخْذُ شیعَتَنَا بِحِجْزِ تَنٰ، فَأَئِنَّ  
تَرُونَ يور دنار رسول اللہ"

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۵ ص ۱۹ ح ۲۴ عیون اخبار الرضا سے مختلف ہے، ح ۲ ص ۶۰

(۲) بخار الانوار: ج ۶۵ ص ۳۰ ح ۶۰ محسن ۱۸۳

(۳) بخار الانوار: ج ۶۵ ص ۳۰

جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، خدا سے لوگا نہیں گے اور علی رسول کے  
دامن سے وابستہ ہوں گے اور ہم علی کا دامن تحام لیں گے اور ہمارے شیعہ ہمارے دامن  
سے وابستہ ہوں گے پس دیکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہاں پہنچا نہیں گے۔ (۱)  
علی بن الحسین سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ورع واجتهاد کا زیادہ حقدار وہ ہے جو خدا  
کیلئے محبت کرتا ہے اور خدا کیلئے راضی ہوتا ہے اوصیاء اور ان کا اتباع کرنے والا ہے کیا تم اس  
بات سے خوش نہیں ہو کہ اگر آسمان سے کوئی خوفناک چیز ظاہر ہو تو ہر گروہ اپنی پناہ کی طرف  
دوڑتا ہے اور تم ہماری طرف پناہ لیتے ہو اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی پناہ لیتے ہیں، ہم  
اپنے نبی کے دامن کو تحام لیتے ہیں اور ہمارے شیعہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۳۰ ح ۶۱ محسن ۱۸۳

## جو چیز خدا انہیں آخرت میں عطا کرے گا

جابر بن عبد اللہ الفنصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ایک روز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے ابو الحسن! کیا میں تمہیں بشارت دوں؟ عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ضرور دیجئے، فرمایا: یہ جبریل ہیں جو خدا کی طرف سے یہ خبر لائے ہیں کہ اس نے تمہارے شیعوں اور محبوبوں کو نو خصلتیں عطا کی ہیں:

- ۱۔ موت کے وقت، نرمی و شفقت
- ۲۔ وحشت و تہائی میں، انس
- ۳۔ تاریکی میں نور
- ۴۔ خوف و خطر کے وقت امن
- ۵۔ اعمال تو لئے وقت و افرحصہ
- ۶۔ صراط سے گزرنا
- ۷۔ تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہونا
- ۸۔ ان کے نور کا ان کے سامنے اور دائیں طرف چمکنا
- ۹۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہماری ولایت کے قائل لوگ روز قیامت اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے

چہرے درختاں ہوں گے، ان کی شرم گاہیں پھپھی ہوئی ہوں گی، ان کے دل مطمئن ہوں گے، سختیاں ان سے بر طرف کر دی جائیں گی، ان کے وارد ہونے کو آسان کر دیا جائیگا، لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ رنجیدہ ہوں گے لیکن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ (۱)

ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے خدا کے اس قول (وَالسَّائِقُونَ أَوْلَىٰكُمُ الْمُفْرَّجُونَ فِي جَنَّاتِ الْتَّعْمِيمِ) کے معنی دریافت کئے تو آپ نے فرمایا: جبریل نے کہا ہے کہ وہ علی اور ان کے شیعہ ہیں وہی جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور وہ خدا سے اس کرامت کے ذریعہ قریب ہوں گے جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ (۲)

.....

(۱) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۵ ح ۱۷ (۲) بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۲۰ ح ۳۳

## ہمارے ساتھ اور ہم میں سے

امام رضا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: میں اور یہ یعنی علی ان دو انگلیوں کی مانند ایک ساتھ ہوں گے اور اپنی دونوں انگلیوں کو متصل کر لیا، اور ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس طرح وہ شخص بھی ہمارے ساتھ رہے گا جس نے کسی مظلوم کی مدد کی ہوگی۔ (۱)

عمر بن یزید سے روایت ہے کہ اس نے کہا: امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اے یزید کے بیٹے! خدا کی قسم تم ہم اہل بیت میں سے ہو، راوی کہتا ہے، قربان جاؤں! میں آل محمد میں سے ہوں؟ فرمایا: ہاں خدا کی قسم انہیں میں سے ہو۔ کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا ہے: اَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِبَرَآهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ هُدَا النَّبِيُّ (۲) یا خدا کا یہ قول نہیں پڑھا (فَمَنْ تَبِعَنِي فَأَنَا مِنْهُ). (۳)

ابراہیم سے ملحق ہونے کے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ جنہوں نے ان کا اور اس نبی کا اتباع کیا۔ پھر جس نے میرا اتباع کیا وہ مجھ سے ہے۔

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعہ ہمارا جزو ہیں، انہیں وہی چیز غنیمین کرتی ہے جو ہمیں رنجیدہ کرتی ہے اور انہیں اسی چیز سے مسرت ہوتی ہے جس سے ہمیں مسرت ہوتی ہے پھر اگر ان میں سے کوئی ہمیں چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ ان کے پاس جائے کیوں کہ وہ اس کے ذریعہ ہم سے والبستہ ہے۔ (۴)

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۹ عیون اخبار الرضا: ج ۲ ص ۵۸ امامی طوی: ج ۱ ص ۷۰

(۲) آل عمران: ۶۸:

(۳) ابراہیم: ۳۶:

(۴) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۴۲ امامی طوی: ج ۱ ص ۳۰۵

امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کی اور ان کو اس طرح تمام لوگوں پر مقدم کیا جس طرح خدا نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی قربات کے سبب سب پر مقدم کیا ہے تو وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے کہ اسے آل محمد سے نسبت ہے، وہ ان سے تولا رکھتا ہے اور ان کا اتباع کرتا ہے خداوند عالم نے اپنی

کتاب میں اسی طرح حکم فرمایا ہے:

(وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَنَّهُ مِنْهُمْ) (۱)

## فلاح و کامیابی

جابر بن یزید سے انہوں نے امام محمد باقر سے اور آپ نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ام

سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنایا ہے:

ان علییاً و شیعته هم الفائزون" (۲)

علی اور ان کے شیعہ کامیاب ہیں۔

## تولی و تبری کے سبب شہیدوں میں شرکت

معقصم کے ماموں ریان بن شبیب سے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں پہلی محرم کو ابو الحسن امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے۔ ایک طویل حدیث کے بعد۔ مجھ سے فرمایا: اے شبیب کے بیٹے! اگر تم کسی چیز پر رونا چاہو تو حسین بن علی بن ابی طالب پر روؤ کیونکہ انہیں بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے اور ان کے اہل بیت سے ایسے اٹھارہ مرد قتل ہوئے ہیں جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ہے۔

.....

(۱) بخار الانوار: ج ۶۸ ص ۳۵ تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۳۲

(۲) ارشاد: یہ روایت ہم پہلے سیوطی کی درمنثور سے نقل کر چکے ہیں۔

اے شبیب کے بیٹے! اگر تم جنت میں بننے ہوئے محل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو قاتلان حسین پر لعنت کرو۔

اے شبیب کے بیٹے! اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اس شخص کے برابر ثواب ملے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں تو جب بھی تمہیں حسین کی یاد آئے تو یہ کہنا:

"یا لیتني کنت معهم فافوز فوزاً عظیماً"۔

اے شبیب کے بیٹے! اگر تم جنت کے بلند درجوں میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غم مناً اور ہماری خوشی میں خوشی مناً اور ہماری دوستی و ولایت سے تم سک رکھو کیونکہ اگر

کوئی شخص پتھر سے محبت کرے گا تو قیامت کے روز خدا اسے اسی کے ساتھ محسوس کرے گا۔

(۱)

یہ حدیث صحیح ہے، اس چیز پر انسان کو ظہر جانا چاہئے اور اگر اس حدیث کی سند صحیح بھی نہ ہو تو ہم اس کو ایک قسم کے مبالغہ پر حمل کریں گے جو کہ مرسل وضعیف حدیثوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔

آپ کے سامنے ہم حدیث کا ایک عجیب فقرہ پھر پڑھتے ہیں:

"يَا بْنَ شَبِيبٍ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلًا لِمَنْ اسْتَشَهَدَ  
مَعَ الْحَسِينِ، فَقُلْ مَتَىٰ مَا ذَكَرْتَهُ: (يَا لَيْتَنَ كَنْتَ مَعَهُمْ فَأَفْوَزْ فُوزًا  
عَظِيمًا)"۔

اے شیب کے بیٹے اگر تم اس شخص کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے تو جب تم انہیں یاد کرو تو یہ کہو: اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔

.....

(۱) امامی صدقہ: ص ۷۹ مجلہ ۲۷

بیشک جب یہ آرزو سچی اور حقیقی ہوگی اور امام حسین اور آپ کے اصحاب کے فعل سے خوشی اور بنی امیہ اور ان کے طرف داروں سے ناراضگی کے ساتھ ہوگی تو سچی ہوگی اور راضی و ناراضگی کی تمنا کرنے والے کو، امام حسین کے محبوبوں میں قرار دے گی اور اسے ان لوگوں کے ثواب

میں شریک قرار دے گی جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں نتیجہ میں نیت خداوند کے نزدیک عمل میں بدل جائیگی اور جب نیت صحیح اور عزم حکم ہو گا تو خدا کے نزدیک قیامت کے دن یہی نیت عمل سے ملحت ہو جائیگی، یہ نیت عمل کے درمیان لگاؤ میں عجیب ترین انقلاب ہے اور نیت کے عمل سے بدل جانے میں اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک قانون و نظام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ماہ طاقت میں بدل جائے فرکس میں اس کا نظام و قانون ہے، یہ ایجاد و سلب اور اثبات وغیرہ میں عجیب قانون ہے ایسے ہی اجر و ثواب میں ہے۔

جس طرح نیک عمل کی نیت صاحب نیت کو صالحین کے ثواب میں شریک کر دیتی ہے، اسی طرح ظلم کرنے کی نیت یا ظالم کے عمل سے خوش ہونا انسان کو عذاب و ظلم میں شریک کر دیتا ہے۔

محمد بن الارقط کہتے ہیں: میں مدینہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا:

کیا تم کوفہ سے آئے ہو؟ عرض کی کیا ہاں!

فرمایا: تم حسین کے قاتلوں کو دیکھتے ہو گے۔

میں نے عرض کیا: میں قربان، ان میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔

فرمایا: اگر تم ان کے قاتل کو نہیں دیکھتے تو کیا قتل کے ذمہ دار کو بھی نہیں دیکھتے؟

کیا تم نے خدا کا قول نہیں سنا: (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتٍ وَّبِاللَّهِيْ فَلَمْ يَأْتِكُمْ مُّنْهَمْ كُلُّمُّ صَادِقِنَ) (۱)

ان لوگوں نے کسی رسول کو قتل کیا تھا کہ جن کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ رہتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا یہاں یہ لوگ رسول کے قتل سے راضی تھاں لئے ان کو قاتل و ظالم کا نام دیا گیا ہے۔

آئیوں میں سے جس آیت کی طرف امام جعفر صادق نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی ۱۸۳ ویں آیت:

(الَّذِينَ قَالُوا نَّحْنُ اللَّهُ عَهْدُ إِلَيْنَا لَا نُؤْمِنُ بِرَسُولِنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيٍ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ نَّكْنُثُمْ صَادِقِينَ)

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے خدا نے یہ عہد لیا ہے کہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کر دے کہ جس کو آگ کھا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی واضح دلیلوں اور تمہاری مطلوب قربانی کے ساتھ تمہارے پاس رسول آئے تھے اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟

اس میں شک نہیں ہے کہ اس آیت

(فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ نَّكْنُثُمْ صَادِقِينَ)

میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے معاصر یہودی مخاطب ہیں اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے کسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو قتل نہیں کیا تھا اور ان یہودیوں اور ان قاتلوں کے

درمیان چھ سو سال کا فاصلہ ہے لیکن قرآن اس کے باوجود حقیقت میں ان کی طرف قتل کی نسبت دیتا ہے۔ اور یہ نسبت مجازی طریقہ سے نہیں جیسے: (وَأَلُوا الْفَرِیْضَیَّةَ)

.....

(۱)آل عمران: ۱۸۳

قتل کی اس نسبت کی کوئی توجیہ و تفسیر بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اس قاعدہ کلیہ کو جانتے ہیں کہ نیت کے لحاظ سے راضی و ناراضی ہونے سے نیت عمل سے بدل جاتی ہے۔

بیشک سچی نیت و آرزو اور صداقت پر مبنی رضا و ناراضگی عمل کی قیمت رکھتی ہے اور اس نیت کے حامل کی طرف عمل کی نسبت دینا صحیح ہے، اس نے خلوص کے ساتھ اس کی تمنا کی تھی اور خلوص کے ساتھ اس سے خوش ہوا تھا جیسا کہ کتاب خدا میں وارد ہوا ہے۔

سید رضی نے نجی البلاعہ میں روایت کی ہے:

جب خدا نے آپ کو جمل والوں پر فتح عطا کی تو آپ کے کسی صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کی میں اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ میر افلان بھائی موجود ہوتا اور وہ آپ کی اس فتح کو دیکھ لیتا جو خدا نے آپ کے دشمنوں پر آپ کو عطا فرمائی ہے۔

فرمایا: کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟

اس نے کہا: ہاں

فرمایا: وہ ہمارے پاس موجود تھا، وہ تھا نہیں تھا، ہمارے اس لشکر میں وہ بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کے صلب اور عورتوں کے رحموں میں ہیں، غقریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور

ان سے ایمان کو تقویت ملے گی۔

یہ قانون اور سنت الہی ہمیں صالحین کے اعمال میں شریک کرتی ہے اور ثواب میں ہمیں ان سے ملحت کرتی ہے اس اعتبار سے ہم انبیاء، اولیاء اور صالحین کے اعمال میں شریک ہیں، کیونکہ ہم نے ان اعمال کی نیت کی تھی اور اس سے راضی تھے اور اس کو دوست رکھتے تھے اور سچے دل سے اس کی تمنا کرتے تھے، جیسا کہ اس کے برعکس بھی صحیح ہے۔

پس جو شخص ظالموں کے اعمال سے راضی ہوگا اور انکے ظلم و جور اور برے اعمال سے خوش ہوگا اور ان کی تمنا کرتا ہوگا ان کی نیت رکھتا ہوگا اور ان سے دفاع کرتا ہوگا تو خدا اسے انہیں کے ساتھ محشور کرے گا اگرچہ وہ وہاں موجود بھی نہیں تھا اور اس کو انہیں کا عذاب دیا جائیگا۔

یہ روایت جو وارد ہوئی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو حسین کے قاتلوں کو قتل کریں گے ان سب کو جمع کریں گے اور انہیں ان سے ملحت کریں گے اور قتل کر دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ امام مہدی اس شخص کو قتل کریں گے، جو امام حسین کے قاتلوں کو دوست رکھتا ہے، تاکہ ان کے رجس و ظلم سے زمین کو پاک کر دیں۔

زیارت امام حسین، جو کہ زیارت وارث کے نام سے مشہور ہے، میں اس قانون کی دلیق ت تشخیص ہوئی ہے۔ جو امام حسین کے قاتلوں اور ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے قتل سے خوش ہونے والوں پر لعنت کرتا ہے۔

زیارت کے جملے یہ ہیں: ﴿لَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً قَتَلُوكُمْ وَلَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً ظَلَمْتُكُمْ، وَلَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيتْ بِهِ﴾

خداعننت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خداعننت کرے اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا، خداعننت کرے اس گروہ پر جس نے یہ سب کچھ سننا اور اس سے راضی ہوا۔  
اس میں پہلا گروہ قتل کا ذمہ دار ہے۔

دوسرے گروہ نے پہلے گروہ کی تائید و تقویت کی ہے۔  
تیسرا گروہ ہے جو قتل حسین سے خوش ہوا، یہ گروہ پہلے گروہ سے زیادہ بڑا ہے۔  
اس کا حلقة تاریخ و جغرافیہ سے زیادہ وسیع ہے۔

مجھے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس گفتگو کو عطیہ عوفی کی اس روایت پر ختم کر دوں جو انہوں نے جلیل القدر صحابی جابر بن عبد اللہ انصاری سے کی ہے، جب جابر نے سانحہ کر بلکے بعد امام حسین کی قبر کی زیارت کی۔

بشارت مصطفیٰ میں عطیہ عوفی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:

میں جابر بن عبد اللہ انصاری کے ساتھ قبرِ حسین بن علی بن ابی طالب کی زیارت کیلئے گیا،  
جب ہم کر بلکہ پہنچ تو جابر فرات پر گئے اور غسلِ مجالائے پھر ایک چادر کو لنگی کی طرح باندھ لیا  
اور دوسرا کو اوڑھ لیا ایک خوشبو کی تھیلی نکالی اور اس کو اپنے بدن پر ملا اور قدم قدم پر ذکرِ خدا  
کرتے ہوئے چلے جب قبرِ حسین کے قریب پہنچ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر سے مس  
کرو تو میں نے انہیں قبر سے مس کیا، جابر بیہوں ہو کر قبر پر گر پڑے میں نے ان پر پانی چھڑکا  
جب وہ ہوش میں آئے تو تین مرتبہ کہا: یا حسین! دوست، دوست کا جواب نہیں دیتا؟  
پھر کہا: آپ کیسے جواب دیں گے جب کہ آپ کو پس گردان سے ذبح کیا گیا ہے آپ کے سر کو

بدن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اے سید انبیین کے بیٹے، اے سید المؤمنین کے فرزند، اے حلیف تقویٰ کے پسر، ہدایت کی نسل اور اے خامس آل عبا، اے سید الغباء کے لخت جگر، اے فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نورِ نظر، آپ ایسے کیوں نہ ہوں، جب کہ آپ کو سید المرسلین نے کھانا کھلایا، سید المتقین کے سایہ میں تربیت ہوئی، ایمان کا دودھ پلایا گیا، اسلام کے ذریعہ دودھ بڑھائی ہوئی آپ زندگی میں بھی طیب و طاہر ہے اور موت کے بعد بھی پاک و پاکیزہ رہے لیکن آپ کے فرقاً میں مومنوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے اور آپ نے جو راستہ اختیار کیا اس کی شکایت نہیں کی جاسکتی، آپ پر خدا کا سلام اور اس کی رضا ہو۔

آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس کو آپ کے بھائی یحییٰ بن زکریا نے اختیار کیا تھا۔ پھر جابر بن عبد اللہ النصاری نے قبر کے چاروں طرف دیکھا اور کہا: سلام ہو تم پر اے روحو! کہ جو بارگاہ امام حسین میں پہنچیں اور میں نے اپنا سامان سفر اتار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی زکواتہ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، آپ نے ملدوں سے جہاد کیا اور آخری سانس تک خدا کی عبادت کی، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وحی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بننا کر بھیجا، یقیناً ہم بھی اس چیز میں آپ کے شریک ہیں جس میں آپ داخل ہوئے ہیں۔

عونی نے کہا: میں نے کہا: کیسے! نہ ہم کسی وادی میں اترے نہ کسی پہاڑ پر چڑھے اور نہ ہم نے توار چلائی اور ظالموں نے ان کے سرو بدن میں جدائی کر دی، ان کی اولاد کو یتیم کر دیا اور ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔

جابر نے کہا: اے عطیہ! میں نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنा ہے کہ فرماتے تھے: جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشور ہو گا اور جو شخص کسی قوم کے عمل کو دوست رکھتا ہے اس کو اس کے عمل میں شریک کیا جائیگا۔ قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بنا کر بھیجا میری نیت اور میرے ساتھیوں کی نیت وہی راستہ ہے جس سے امام حسین اور انکے اصحاب گزرے ہیں مجھ کو فیوں کے گھروں کی طرف لے چلو۔

ہم راستہ طے کر رہے تھے کہ جابر نے کہا: اے عطیہ! کیا میں تمہیں وصیت کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر کے بعد تم سے میری ملاقات نہیں ہو گی، دیکھو، ان لوگوں سے محبت کرنا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دشمن سمجھنا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو دشمن سمجھتے ہیں خواہ کتنے ہی نماز اور روزہ دار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے محب کے رفیق بن جاؤ، کیونکہ اگر کسی گناہ میں لغزش ہو جائیگی تو ان کی محبت کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائیگا بیشک آپ کا محب اور دوست جنت میں اور ان کا دشمن جہنم میں جائیگا۔

## استدراءک والحق

### اہل بیت کون ہیں

اس گفتگو کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سوال پیش کئے جائیں جو کہ گذشتہ بحث سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور وہ یہ کہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کو سیاسی امامت اور فقہ و ثقافت کی مرجعیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے قیامت تک کیلئے میراث ملی ہے؟

جواب: مسئلہ اس سے کہیں واضح ہے کہ انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرے، پیش کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حلال و حرام، اصول و فروع میں امت کی مرجعیت قیامت تک کے لئے غیر معین جماعت کے حوالے کر دیں اس جماعت کو میں، واضح اور مشہور ہونا چاہئے اور ہمیں پوری تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت میں سے ائمہ اثنا عشر، کہ جن کو شیعہ امام مانتے ہیں، کے علاوہ کوئی ایسی مشہور جماعت نہیں ملتی کہ جس نے تاریخ میں اپنی امامت اور مسلمانوں کی مرجعیت کا اعلان کیا ہو اور تاریخ اسلام میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اہل بیت مشہور ہیں، انہیں کا علم و جہاد اور ہم و میراث ہم تک سینکڑوں جلدیوں میں پہنچی ہے، جس کو اس مکتب کے بلند مرتبہ علماء ایک دوسرے سے نسلًا بعد نسل میراث میں لیتے رہے ہیں، یہی سیاسی و فقہی امامت میں خود کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا

وارث سمجھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد یہی معصوم ہیں۔

## رسول کے بارہ امام ہوں گے

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایسے صحیح طریقوں سے کہ جن میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ بیان ہوا ہے کہ رسول ﷺ کے بعد امامت را شدہ بارہ امیروں میں منحصر ہو گی اور وہ سب قریش سے ہوں گے اور یہ روایتیں محمد بن اسما عیل بخاری کے نزدیک صحیح ہیں۔ (۱) اور مسلم بن حجاج نیشاپوری نے بھی اپنی صحیح میں (۲) ترمذی نے اپنی صحیح میں۔ (۳) حاکم نے متدرک صحیحین (۴) اور احمد بن حنبل نے منند میں متعدد مقامات پر اور بہت سے حدیث نبوی کے حفاظ نے بھی ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور تاریخ اسلام میں ہمیں ایسے بارہ عادل امام و امیر نہیں ملتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بعد ہوئے ہیں:

یہ امر ختم نہیں ہو گا یہاں تک کہ ان کی تعداد مکمل ہو جائیگی اور دین ایسے ہی قائم رہے گا، یہاں تک کہ ان میں سے بارہ ہوں گے، ان کی تعداد اتنی ہی ہو گی کہ جتنی بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد تھی اس کے علاوہ اور بھی صحیح روایتیں وارد ہوئی ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں اس واضح صفت کے حامل ہمیں بارہ امام و امیر، ائمہ اہل بیت کے ان مشہور بارہ اماموں کے علاوہ نہیں ملتے ہیں کہ جن کی امامت سے شیعیان اہل بیت وابستہ ہیں، اگر ہم ان کی امامت کا انکار کر دیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث صحیح نہیں رہے گی اور اس کا کوئی مصدقہ نہیں ملے گا اور ایسی بات قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز

پڑھنے والا نہیں کہے گا۔

### آیت تطہیر

ہماری اس بات کا دوسرا ثبوت سورہ احزاب کی آیت تطہیر ہے: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ  
الرِّجْسِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ مِنْ طَهِيرًا) (۵)

.....

(۱) صحیح بخاری: کتاب الاحکام

(۲) صحیح مسلم: کتاب الامارة: ج ۱۲ ص ۴۰۱ ۲۰۱ شرح نووی طبع ۱۹۷۲

(۳) صحیح ترمذی: ج ۷ ص ۳۵ کتاب الفتن

(۴) مسندر کاصحین: ج ۴ ص ۱۰۱ (۵) احزاب: ۳۳

اہل بیت خدا کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم کو ہر رجس سے پاک رکھے اور ایسے پاک رکھے جیسا کہ  
پاک رکھنے کا حق ہے۔

اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی،  
فاطمہؓ، حسن و حسین کو کس اے کے نیچے جمع کیا ان کے علاوہ کسی غیر کو آنے کی اجازت نہیں دی،  
تو یہ آیت: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ نَازِلًا هُوَ)۔ (۱)

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ رسولؐ نے انہیں کو اہل  
بیت قرار دیا ہے، چنانچہ آیت تطہیر کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی،

فاطمہ، حسن و حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا

: "اللّٰهُمَّ هُوَ لِأَهْلِ بَيْتِيٍّ، فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسُ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا"

اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو کثافت کو دور کھا اور ان کو اس طرح پاک رکھ جیسے پاک رکھنا حق ہے۔ ام سلمہ نے کہا: اے اللہ! کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی

ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: تم اپنی جگہ پر رہو، تم خیر پر رہو۔ (۲)

جور و ایتیں اہل بیت کو پنج تن پاک میں محدود و مختص کرتی ہیں ان کے غیر کو نہیں، ان روایات میں بہت سی صحیح بھی ہیں، ان میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، ان کو ترمذی، طہاوی، ابن اشیر جزری نے اور حاکم نے مستدرک میں اور سیوطی نے درمنثور میں بہت سے طریقوں سے نقل کیا ہے، یہ صحیح روایات ان اہل بیت کی تعیین و تشخیص میں ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسائے کے نیچے جمع کیا تھا۔

اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جب صحیح کی نماز کیلئے نکلتے تو فاطمہ زہرا کے دروازہ پر جاتے اور فرماتے تھے:

.....

(۱) صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسین، مستدرک الحسینی: ۳ سنن

بیہقی: ۱۴۹۲ وغیرہ

(۲) صحیح ترمذی: ۲۰۹۲

"الصلوٰۃ یا اہل البیت۔ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا)"۔ (۱)

سیوطی نے اپنی کتاب درمنثور میں اس آیت: (وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلوٰۃِ) کی تفسیر کے سلسلہ میں ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب یہ آیت: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ) نازل ہوئی تو حضرت رسالت مآب آٹھ ماہ تک نماز صح سے پہلے حضرت علیؑ کے دروازہ پر آتے اور کہتے تھے:

"الصلاۃ رحمکم اللہ"

نماز، خدا تم پر حرم کرے:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا) (۲)

اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وس علیہ کے اس عمل کو اصحاب دیکھ رہے تھے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وس علیہ کا حق کرنے کے وہ اہل بیت معین ہو جائیں کہ جن سے خدا نے رجس کو دور کھا اور ایسے پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، چنانچہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ اور ان سے خدا نے رجس کو دور کھا ہے اور اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہو جائیگا کہ اہل بیت کون ہیں اور امامت اور فقہی مرجعیت آخری زمانہ تک انہیں میں محدود رہی، یہی پتختن ہیں جن سے خدا نے رجس کو دور کھا ہے جیسا کہ قرآن گواہ ہے وہ حق اور سچ کہتے ہیں جیسا کہ قرآن گواہ ہے اور امامت اور فقہی و

شقافتی مرجعیت ان سے ہی متصل رہے گی، جیسے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں، امام سابق کی وصیت سے، یہاں تک کہ اس کا سلسلہ پہلے امام حضرت علی تک پہنچ جائیگا۔ اس سے پارہ ائمہ معین ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث میں اشارہ ہوا ہے۔

.....

(۱) صحیح ترمذی: ۲۰۹۲:

(۲) تفسیر درمنثور میں سورہ طہ، آیت: ۱۳۲ کے ذیل میں.

ISLAMICMOBILITY.COM  
IN THE AGE OF INFORMATION  
IGNORANCE IS A CHOICE

*"Wisdom is the lost property of the Believer,  
let him claim it wherever he finds it"*

*Imam Ali (as)*

---